

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
کہ دین مان سوت اقرا نبل

ایر و مٹان تحفہ عجاتیہ و ہدیہ غراتیہ الی اللہ  
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد ﷺ  
مُسَمَّی بِهِ

# مجموعۃ السؤا ل

الجزء التاسع

فِي تَحْسِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ ﷺ

از تصنیف خاتمہ مخارون الملک الشیخ خلیفہ حضرت شاہ جیلانی

حضرت خواجہ خوجکان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِرَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِمَنْعِ

اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رفعت کے وسیلہ سے اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مضبوطی کے وسیلہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شفاعت کے وسیلہ سے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بہت رحم والا مہربان۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں چلا راہ راست پر۔ راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَاِلَّا الضَّالِّیْنَ ۝

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

نہیں کوئی معبود برحق مگر محمد اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ حُبِّ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی تعریف و شفاء

تَحْمِیْدِهِ وَتَتَجِیْدِهِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ صَلٰی

اور بزرگی کے بیان کو پسند کرتے ہوئے "بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے صلوٰۃ بھیجتے ہیں نبی پر صلیٰ

عَلَيْهِ وَسَلَامٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ اِنِّیْ اُصَلِّی الصَّلٰوَةَ عَلَیْهِ اَحَدَ عَشَرَ

محمد کی آل پر جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نبی پر گیارہ مرتبہ صلوٰۃ





مَرَّةً وَعِنْدَ الْبَعْضِ اثْنِي عَشْرًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ زَائِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ  
 بھجتا ہوں اور بعض کے نزدیک بارہ دفعہ اور بعض نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج  
 عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالٰی  
 سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے  
 لِاجْلِهِ اَمْرًا يَأْتِيهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ  
 حکم دیتے ہوئے فرمایا " اے ایمان والو صلوٰۃ بھیجو ان پر اور سلام بھیجو۔ اے اللہ  
 صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ  
 صلوٰۃ بھیج محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی ابراہیم پر اور آل  
 اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ اَرْحَمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ  
 ابراہیم پر بے شک تو سزاوار حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ رحم فرما محمد پر اور آل محمد پر  
 كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ  
 جیسے تو نے رحم کیا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو لائق حمد اور بزرگتر ہے  
 اللَّهُمَّ اَعْظَمْ وَاكْرِمْ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا عَظَّمْتَ وَكَرَّمْتَ اِبْرَاهِيْمَ  
 اے اللہ عظمت و کرامت عطا کر محمد اور آل محمد کو جیسے تو نے عظمت اور بزرگی دی ابراہیم کو  
 وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ  
 اور آل ابراہیم کو بے شک تو لائق حمد بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما نبی اتی  
 الرَّقِيِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ  
 محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت دی ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو  
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اٰلِ  
 بے شک تو ہمیشہ مستحق حمد بزرگتر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی آل  
 اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ  
 ابراہیم پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ  
 اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی آل ابراہیم پر  
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
 بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی  
 عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ  
 ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور آل  
 مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ  
 محمد پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو حمید مجید ہے۔  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ  
 اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم  
 وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ  
 اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ بنا اپنی صلوات اور  
 بَرَكَاتِكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ  
 برکات نازل ہونے والی محمد پر جیسے تو نے بنایا انہیں نازل ہونے والی ابراہیم پر بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ  
 اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
 بنا اپنی صلوات و برکات کو محمد و آل محمد پر جیسے کہ  
 جَعَلْتَهَا عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ  
 بنایا انہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلٰی اٰهْلِ بَيْتِهِ  
 اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما اپنے عبد خاص اور رسول معظم محمد پر اور ان کے اہل بیت پر  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی  
 جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما



مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ  
 اپنے عبد خاص اور رسول معظم محمد پر جیسے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما  
 عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 محمد اور آل محمد پر جیسے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ  
 بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی ازواج پر  
 وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ  
 اور اولاد پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور  
 أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ  
 آپ کی مقدس بیویوں پر اور اولاد اطہار پر جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو تمام جہانوں میں بے شک تو  
 حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ  
 حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور برکت نازل فرما  
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ  
 محمد اور آل محمد پر اور رحم فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات بھیجی اور برکت دی  
 وَتَرَحَّضْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ  
 اور رحم فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ  
 اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور ان کے اہل بیت پر جیسے رحمت نازل فرمائی  
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَصَلِّوهُ  
 آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ ہم پر بھی صلوات ہو ساتھ ان کے اور درود ہو  
 اللَّهُمَّ وَصَلِّوهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ  
 اللہ کا اور مومنین کا نبی امی محمد پر۔ اے اللہ برکتیں عطا کر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ  
 محمد اور آپ کے اہل بیت کو جیسے تو نے برکت دی آل ابراہیم کو بے شک تو حمید  
 مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا  
 مجید ہے اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ برکت سے نواز۔ اے اللہ انہیں قائم فرما قیامت کے دن مقام  
 مَحْمُودًا يُغِيْبُطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ  
 محمود میں کہ جس پر قیام کی وجہ سے اولین و آخرین ان کے ساتھ رشک کریں گے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما  
 مُحَمَّدًا وَابْلُغْهُ الْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ  
 محمد پر اور پہنچا انہیں مقام وسیلہ اور بلند تر درجہ تک جنت سے۔ اے اللہ  
 اجْعَلْ فِي الْمِصْطَفَيْنِ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمَقْرَبِينَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الْأَعْلَىٰ  
 بنا چنے ہوئے حضرات میں محبت ان کی۔ اور ارباب قرب میں مودت ان کی اور بلند مقام حضرات میں  
 ذِكْرَهُ وَدَارَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 ذکر اور مکان ان کا ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اور اس کی رحمت اور برکتیں۔ اے اللہ صلوات بھیج  
 عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
 محمد پر اور آل محمد پر۔ اور برکت عطا فرما محمد کو اور آل محمد کو جیسے  
 صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا  
 صلوات و برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور رحم فرما محمد پر  
 وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَبَارِكْ  
 اور آل محمد پر جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور برکت عطا فرما  
 عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ  
 محمد کو اور آل محمد کو جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے  
 اللَّهُمَّ وَتَرَحَّضْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّضْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ  
 اے اللہ اور رحمت خاصہ نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے خاص رحمت نازل فرمائی ابراہیم



وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ اور مہربانی فرما محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

آل محمد پر جیسے تو مہربان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ

حمید مجید ہے۔ اے اللہ اور سلام بھیج محمد و آل محمد پر جیسے تو نے سلام بھیجا

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات بھیجی ابراہیم پر اور برکت عطا کر محمد کو

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آل محمد کو جیسے برکت دی ابراہیم کو اور سلام بھیج محمد اور آل محمد پر

إِلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

جیسے تو سلام بھیجا ابراہیم پر اور مہربان ہو محمد اور آل محمد پر

كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ

جیسے تو مہربان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

صلوات نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات نازل فرمائی ابراہیم پر اور

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَأَوْلَادَهُ مُحَمَّدًا كَمَا رَحِمْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ

آل ابراہیم پر اور رحم فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدًا كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور برکت دے محمد اور

إِلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

آل محمد کو جیسے برکت دی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر

وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ

اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے رحمت و برکت نازل فرمائی ابراہیم اور

وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

آل ابراہیم پر تمام جہانوں میں بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ بنا اپنی صلوات اور

وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ

رحمت اور برکات کو محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے بنایا انہیں ابراہیم پر

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ کر اپنی صلوات اور

بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيَّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ

برکات اور رحمت سید المرسلین امام المتقین اور خاتم

النَّبِيِّينَ مُحَمَّدَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

النَّبِيِّينَ محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ خیر کے امام و قائد ہیں اور رسول



الرَّحْمَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ

رحمت میں اور صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر جیسے صلوات بھیجی ابراہیم اور

إِلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد۔ ان کے اہل

بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ

بیت اور ازواج و اولاد پر جیسے کہ صلوات بھیجی ابراہیم و آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اور برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کے اہل بیت اور ازواج پر

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اور اولاد پر جیسے برکت دی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ

اے اللہ صلوات نازل فرما نبی محمد پر اور آپ کی ازواج اہمات المؤمنین پر اور

ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

آپ کی اولاد اور اہل بیت پر جیسے صلوات نازل فرمائی آل ابراہیم پر بے شک تو حمید

مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

مجید ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد پر جیسے تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صلوات بھیجیں ان پر

وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور صلوات بھیج ان پر جیسی کہ صلوات ان کے شانہ و شانہ ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَأَعْطِهِ

اور آل محمد پر ایسی صلوات جو تیری رضا کا موجب ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا سبب ہو اور عطا کر انہیں

الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْزِهِ

مقام و وسیلہ اور مقام محمود جس کا تو نے وعدہ دیا ہے اور جزاء دے انہیں ہماری طرف سے جس کے وہ مستحق ہیں اور جزاء دے انہیں

عَنَّا مِنْ أَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ

ہماری طرف سے افضل ترین جزاء جو تو نے کسی نبی کو اُمت کی طرف سے دی۔ اور صلوات بھیج ان کے تمام بھائیوں یعنی

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِتَمْجِيدِكَ

انبیاء و مرسلین پر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظیم ترین بزرگی کے وسیلہ

أَلْمَجْدِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ يَا مَجِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سے بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے صاحب مجد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَ

آپ کی آل پر مطابق تعداد صفوں ملائکہ کے اور ان کی تسبیح و

تَقْدِيسِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ

تقدیس اور تحمید و تجمیہ اور تکبیر و تہلیل کی مقدار کے مطابق

مَنْ أَوَّلَ الدُّنْيَا إِلَى فَنَائِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابتداء خلق سے لے کر فناء دنیا تک۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِينَ التَّمَسَّتْ الْعُلُومُ مِنْ عَوَارِفِ

اور آپ کی آل پر وہ محبوب کہ حاصل کئے گئے ہیں سبھی علوم ان کے علوم کے سمندروں کے

بُحُورِ عُلُومِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحَرْفِ الْجَامِعِ

عوارف سے۔ اے اللہ ہم تو سئل کرتے ہیں تیری طرف اس حرف کے ساتھ جو جامع ہے

لِمَعَانِي كَمَا لَكَ نَسْأَلُكَ إِيَّاكَ أَنْ تُرِينَا وَجْهَ نَبِيِّنَا وَتَمَحُومِنَا

تیرے کمالات کے معانی کو۔ ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کا چہرہ اور دکھلائے اور ہم سے محو کرے

وَجُودَ ذُنُوبِنَا بِشَاهِدَةِ جَمَالِكَ وَأَنْ تُغَيِّبَنَا فِي بَحَارِ أَنْوَارِكَ

ہمارے گناہوں کے نام و نشان کو اپنے مشاہدہ جمال کے ذریعے اور ہمیں غرق کرے اپنے انوار کے سمندروں میں

مَعْصُومِينَ عَنِ الشَّوَاغِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ سَأَعْبُدُكَ إِلَيْكَ غَائِبِينَ

در انحالیکہ ہم محفوظ ہوں دنیوی مشاغل سے رغبت کرنے والے ہوں طرف تیری غائب و مستغرق ہوں



بِكَ يَا هُوَ وَاسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَاغْبِسْنَا فِي بَحَارِ احْدَائِيَّتِكَ  
 تجھ میں لے ذات محبت اور ہمیں پلا اپنے شراب محبت سے - اور ہمیں غرق فرما دے اپنی احدیگی سمندروں میں  
 حَتَّى نَرْتَعِ فِي بَحْبُوْحَةِ حَضْرَتِكَ وَتَقْطَعُ عَنَّا اَوْهَامَ خَلِيْقَتِكَ  
 حتی کہ ہم لطف اندوز ہوں (نورانی غذاؤں کے ساتھ) تیرے حیرم ناز میں اور قطع کرے ہم سے مخلوق کے اوہام  
 بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَنُوْرِنَا بِنُوْرِ طَاعَتِكَ وَاهْدِنَا وَلَا تَضِلُّنَا  
 اپنے فضل اور رحمت سے اور ہمیں منور فرما اپنے نور طاعت کے ساتھ۔ ہمیں ہدایت عطا کر اور گمراہ نہ فرما  
 وَبَصِّرْنَا بِعِيُوْبِنَا عَنْ عِيُوْبٍ غَيْرِنَا بِحُرْمَتِ نَبِيْنَا وَسَيِّدِنَا  
 اور ہمیں اپنے عیوب کے ملاحظہ کرنے کی توفیق دے کہ دوسروں کے عیوب سے غافل رکھ بجز محبت ہمارے نبی اور سردار  
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اِلَيْهِ مَصَابِيْحُ الْوُجُوْدِ وَ  
 محمد کے - اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ان پر اور اس کی سلامتی اور ان کی آل پر جو ہر موجود کے لیے اور  
 اَهْلِ الشُّهُودِ بِشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلَيْكَ  
 اہل شہود کے لیے چراغ نور ہیں بظہیل شاہد و مشہود (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے) لے اللہ ہم ان کے ساتھ شفاعت طلب کرتے تیری  
 اِذْ هُوَ اَوْجُهَ الشُّفَعَاءِ اِلَيْكَ وَنُقِسْمُ بِكَ اِذْ هُوَ اَعْظَمُ  
 بارگاہ میں کیونکہ وہ تیرے ہاں سب شفیعوں سے زیادہ آبرو مند ہیں اور ہم قسم دیتے ہیں ان کی تجھ پر کیونکہ وہ عظیم تر ہیں  
 مَنْ اُقْسِمَ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ وَنَتَوَسَّلُ بِكَ اِذْ هُوَ اَقْرَبُ  
 ان تمام حضرات سے جن کے حق کا تجھ واسطہ دیا گیا اور ہم ان کے ساتھ تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہیں کیونکہ وہ وسائل میں سے قریب ترین  
 الْوَسَائِلِ اِلَيْكَ نَشْكُوْا اِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسُوَّةَ قُلُوْبِنَا وَكَثْرَةَ  
 وسیلہ ہیں تیری طرف۔ ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں لے رب اپنے دلوں کی قساوت۔ گناہوں کی کثرت  
 ذُنُوْبِنَا وَطُوْلَ اَمَالِنَا وَفَسَادَ اَعْمَالِنَا وَتَكَاسَلْنَا عَنِ الطَّاعَاتِ  
 اور لمبی آرزوں اور فاسد اعمال کی اور طاعات میں سستی کی  
 وَهَجُومَنَا عَلَى الْمَخَالَفَاتِ فَنِعْمَ الْمَشْتَكِي اِلَيْهِ اَنْتَ يَا رَبِّ  
 اور مخالفتوں پر کمر بستہ ہونے کی پس بہت اچھا ہے شکایات پیش کئے جانے کے لائق تو۔ لے پروردگار

بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلَى اَعْدَائِنَا وَاَنْفُسِنَا فَاَنْصُرْنَا وَعَلَى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ  
 تیری ذات سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اپنے اعداء اور نفوس پر پس ہماری نصرت فرما۔ اور تیرے ہی فضل پر توکل کرتے ہیں  
 فِي صَلَاحِنَا فَلَا تَكُنْ اِلَى غَيْرِكَ يَا رَبَّنَا وَاِلَى جَنَابِ رَسُوْلِكَ تَنْتَسِبُ  
 اپنی اصلاح میں پس ہمیں دوسروں کے حوالے نہ فرما لے ہمارے پروردگار اور تیرے رسول مختتم کی جناب اقدس سے نسبت رکھتے ہیں  
 فَلَا تَبْعِدْنَا وَبِبَابِكَ نَقْفُ فَلَا تَطْرُدْنَا وَاِيَّاكَ نَسْئَلُ فَلَا تُخَيِّبْنَا اَللّٰهُمَّ  
 پس ہمیں دور نہ فرما اور تیرے ہی در پر کھڑے ہیں تو ہمیں دھتکار نہ دینا۔ اور تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں پس ہمیں محروم نہ رکھنا لے اللہ  
 اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنُوْرِ السَّارِي فِي الْوُجُوْدِ اَنْ تُحْيِيَ قُلُوْبِنَا  
 ہم تیری طرف وسیلہ بناتے ہیں ان کے نور کو جو جملہ موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے کہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے ان کے  
 بِنُوْرِ حَيَاةٍ قَلْبِهِ الْوَاسِعِ لِكُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا وَهُدًى وَ  
 قلب نور کے نور حیات کے ساتھ جو محیط ہے ہر فرد کائنات کو از روئے رحمت و علم کے اور ہدایت و  
 بُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَنْ تَشْرَحَ صُدُوْرَنَا بِنُوْرِ شَرْحِ صَدْرَةِ الْجَامِعِ  
 بشارت کے اور خصوصاً تمام مسلمین کو۔ اور کشادہ فرمائے ہمارے سینوں کو بظہیل ان کے شرح صدر کے نور کے جو جامع  
 مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَّضِيَاءٍ وَذِكْرُ الْمُتَّقِيْنَ وَتَطَهَّرَ  
 (روح محفوظ کو جس کی شان یہ ہے) ہم نے کتاب (روح محفوظ) میں کسی شے کی اور جامع ہے از روئے نور سانی اور تذکرہ کے واسطے متقین  
 نَفُوْسَنَا بِطَهَارَةِ نَفْسِهِ الرَّكِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَتَعَلَّمْنَا بِاَنْوَارِ عُلُوْمِهِ  
 کے اور پاک کرے ہمارے نفوس کو آپ کے نفس زکیہ مرضیہ کی طہارت بظہیل اور سکھائے ہمیں ان کے انوار علوم کی بدولت (اس شان والے علوم)  
 وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِيْنٍ وَتَسْرِي سَرَائِرَ فَاِنَّا  
 اور ہر شے کا احاطہ کر دیا ہے ہم نے لوح محفوظ میں " اور جاری و ساری کرے ان کے اسرار کو ہم میں  
 بِلَوَامِعِ اَنْوَارِكَ حَتَّى تُفْنِيْنَا عَنَّا فِي حَقِّ حَقِيْقَتِهِ فَيَكُوْنُ هُوَ  
 اپنے چمکتے انوار کے ساتھ حتی کہ فنا کر دے ہمیں ان کی حقیقت حقہ میں تاکہ ہو جائیں وہ ہی  
 الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ فَيُنَا بِقِيُوْمِيَّتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ فَنَعِيْشُ بِرُوْحِهِ عَيْشِ  
 حی و قیوم ہم میں بظہیل تیری قیومیت سرمدیہ (کی مظہریت) کے پس ہم ان کی روح اقدس کے ذریعے پائیں





الْحَيَاةَ الْآبِدِيَّةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا  
 حیات ابدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما  
 كَثِيرًا أَمِينَ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا  
 کثیراً آمین - بسبب تیرے فضل و رحمت کے ہم پر لے خان، لے مان - لے  
 رَحْمَنُ يَا دَيَّانُ أَفْضُ عَلَيْنَا تَجَلِّيَاتٍ مَنَازِلَاتِكَ فِي مِرَاةِ  
 رحمن - لے بہت جزاء دینے والے - فیضان فرما ہم پر اپنے منازل کی تجلیات کا اس محبوب کے آئینہ شہود  
 شُهُودِهِ لِمَنَازِلَاتِ تَجَلِّيَاتِكَ فَتَكُونُ فِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ  
 میں (جو منظر ہے) تیرے منازل تجلیات کا پس ہم ہو جائیں از روئے معنی خلفاء راشدین اور  
 وَوَلَايَةِ الْأَقْرَبِينَ يَا رَبَّنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ تَقْبَلُ مَثَالِدَ عَوَاتٍ  
 اولیاء اقربین سے لے اللہ بطفیل ان کی عز و جاہ کے جو تیری بارگاہ میں ہے قبول فرما ہماری دعائیں  
 وَارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ وَأَفْضِ عَنَّا التَّيْبَعَاتِ وَأَسْكِنْنَا أَعْلَى الْجَنَّاتِ  
 اور بلند فرما ہمارے درجات کو اور دور فرما ہم سے غذاب اور بٹھراہیں بلند جنات میں  
 وَأَبْحِنَا النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي حَضْرَاتِ الْمَشَاهِدَاتِ وَ  
 اور مباح فرما ہمارے لیے اپنی ذات کریمہ کا دیدار مقامات مشاہدہ میں اور  
 اجْعَلْنَا مَعَهُ وَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ  
 بنا ہمیں محبوب کریم کا ساتھی اور جن پر تو نے انعام کیا یعنی انبیاء و  
 الصِّدِّيقِينَ أَهْلَ الْمُعْجَزَاتِ وَأَرْبَابَ الْكِرَامَاتِ وَهَبْ لِي  
 صدیقین کا ساتھی جو معجزات اور کرامات کے مالک ہیں - اور مجھے عفو و  
 الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ مَعَ اللَّطْفِ فِي الْقَضَاءِ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ  
 عافیت عطا فرما بمع لطف و احسان کے قضاء میں آمین لے رب العالمین  
 اللَّهُمَّ أَمِّدْنَا بِمَدَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدُومَ لَنَا  
 لے اللہ ہماری امداد فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے

الْأُسْتِقَامَةَ وَتَزَايِدَ لِنَابِكَ الْكَرَامَةَ اللَّهُمَّ أَمِّدْنَا بِمَدَدِ أَشْرَفِ  
 استقامت حاصل ہو اور بڑھ جائے تیری توفیق سے ہماری بزرگی - لے اللہ ہماری امداد فرما ساتھ مدد اس ذات کو جو اشرف ہیں  
 أَنْبِيَائِكَ وَأَجَلِّ أَصْفِيَاءِكَ وَتَاجِ أَوْلِيَاءِكَ وَسَيِّدِ أَهْلِ وَفَائِكَ  
 تیرے تمام انبیاء سے، جلیل تر ہیں تیرے تمام اصفیاء سے اور تاج ہیں تیرے اولیاء کے اور سردار ہیں اہل وفا کے  
 الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الْخَبِيرِ الْبَصِيرِ الْقَدِيرِ اللَّهُمَّ  
 بشیر و نذیر - روشن چراغ ہیں - خبر رکھنے والے - صاحب بصیرت اور صاحب قدرت ہیں - لے اللہ  
 بِجَاهِهِ عِنْدَكَ يَسِّرُ لَنَا عِلْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 بطفیل ان کی عزت و حرمت کے جو تیری بارگاہ میں ہے آسان فرما ہمارے لیے علم حقیقی "لا الہ الا اللہ - اشہدان لا الہ الا  
 اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاجْعَلْنَا بِهِ فِي حَضْرَةِ  
 اللہ و اشہدان محمداً رسول اللہ " کا اور بنا ہمیں اس کے ذریعے مقدس ربانی  
 الْقُدْسِ الرَّبَّانِيِّ مِمَّنْ تَبِعَهُ فَاتَّبِعْكَ اللَّهُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ  
 بارگاہ میں ان کے تابعین سے تاکہ تیری اتباع تک پہنچ جاؤں - لے اللہ ایسے ہی ہوں جملہ  
 ذَلِكَ مَا دَامَ لَكَ كُلُّ مَا كَانَ وَكُلُّ مَا يَكُونُ اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ  
 معروضات میں جب تک تیرے لیے ہے وہ سب جو ہو چکا اور وہ سب جو ہو گا یعنی ہمیشہ کے لیے - لے اللہ بطفیل ان کے سر حقیقت  
 لَدَيْكَ أَمِنْ خَوْفِي وَأَقْلُ عَثْرَتِي وَأَذْهَبْ حُزْنِي وَجِرْحِي  
 کے جو تیرے ہاں ہے میرے خوف کو امن سے بدل اور تبدیل کر میری لغزشیں اور دور فرما میرے غم اور حرج کو  
 وَكُنْ لِي وَخُذْ نِي إِلَيْكَ مِنِّي وَأَرْزُقْنِي الْفَنَاءَ عَنِّي وَلَا تَجْعَلْنِي  
 اور تو میرا ہو جا اور مجھے مجھ سے لے کر اپنا بنا لے اور مجھے اپنے آپ سے فنا ہونے کی توفیق دے اور مجھے اپنے آپ سے  
 مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِحَسْبِي وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرِّ  
 ساتھ ابتلاء میں نہ ڈال اور حواس کے ذریعے حجاب میں نہ رکھ اور مجھ پر ہر راز سربستہ کو کشف فرما  
 مَكْتُومٍ مَكْظُومٍ يَا كَاشِفُ اللَّهُمَّ بَلِّغْ سَلَامِي إِلَيْهِ وَأَوْقِفْنِي  
 لے کشف کرنے والے - لے اللہ میرا سلام نیاز ان تک پہنچا مجھے ان کی بارگاہ میں قیام کی سعادت بخش اور مجھ



بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَفْضُ عَلَيَّ مِنْ مَدَدِهِ وَأَحْرُسُنِي بَعْدَ دِهِ وَأَنْفَخَ

پران کی مدد کا فیضان فرما اور میری نگہبانی فرما ان کے لشکروں سے اور پھونک

فِي مَنْ رُوحِهِ كِي أَحْبَبِي بِرُوحِهِ وَلَا شُهَدَا حَقِيقَتِي عَلَى التَّفْصِيلِ

میرے اندران کی روح اقدس تاکہ میں ان کی روح سے زندگی پاؤں اور میں مشاہدہ کروں اپنی حقیقت کا تفصیل کے ساتھ

وَأَعْرِفُ بِذَلِكَ الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ وَأَرَى الْعَوَالِمَ الْغَيْبِيَّةَ تَتَجَلَّى

اور جان لوں اس کی بدولت کثیر و قلیل کو اور دیکھ لوں غیب کے جہانوں کو جلوہ لگن ہوتے

بِالصُّوَرِ الرُّوحَانِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَظَاهِرِ لِاجْمَعِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَ

صور روحانیہ کے ساتھ باوجود اختلاف مظاہر کے تاکہ میں جامع ہو جاؤں اول و

الْآخِرِ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ فَكُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهِي بَيْنَ لِي مِنْ

آخر کا اور ظاہر و باطن کا پس ہو جاؤں ساتھ اللہ کے۔ اے میرے الٰہ مجھ پر واضح فرما

صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لَيْسَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ وَلَا جُزْءٌ

ان کی صفات و افعال نہیں میرے لیے امر سے کوئی معلوم شئی اور نہ کوئی قسمت کی ہوئی چیز

مَقْسُومٌ فَأَعْبُدُكَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ بَلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّةِ

تاکہ غلامی کروں ان کی اس امر کے ساتھ تمام احوال میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توانائی اور

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ

ذوالجلال و الاکرام کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ اے جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جو لاریب ہے

فِيهِ أَجْمَعِنِي بِهِ وَعَلَيْهِ وَفِيهِ حَتَّى لَا أَفَارِقَهُ فِي الدَّارَيْنِ وَلَا

جمع فرما مجھے ساتھ ان کے اور ان پر اور ان میں تاکہ میں نہ جدا ہو سکوں ان سے دونوں جہانوں میں اور نہ

أَنْفُصَلَ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ بَلْ أَكُونُ كَأَنِّي إِيَّاهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ

جدا ہو سکوں دونوں حالوں میں بلکہ میں ہو جاؤں گویا کہ میں ان کا عین ہوں ہر اس امر میں

تَوَلَّاهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِتِّبَاعِ وَالْإِنْتِفَاعِ لَا مِنْ طَرِيقِ الْمِثَالَةِ وَ

جس کے وہ متولی ہوئے لیکن اتباع و استفادہ کے طور پر نہ کہ برابری یا برتری اور

الْإِمْرْتِفَاءِ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى الْمُسْتَجَابَةِ أَنْ تُبَلِّغَنِي

رفعت کے طریقہ پر۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے مقبول اسماء حسنیٰ کے وسیلہ سے کہ تو پہنچائے مجھے

ذَلِكَ مِنْهُ مُسْتَطَابَةً وَلَا تَرُدَّنِي مِنْكَ خَائِبًا وَلَا مَمْنُنٌ لَكَ

اس مقام تک بطور پاکیزہ منت و احسان کے اور نہ لوٹائے مجھے اپنے در سے اور اپنے نائب کے

نَائِبٌ فَإِنَّكَ الْوَاحِدُ الْكَرِيمُ وَأَنَا عَبْدُكَ الْعَدِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ

در سے ناکام پس بیشک تو صاحب دامت و رحمتہ اور کریم ہے اور میں تیرا لاشی بندہ ہوں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ الشَّانِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بلند شان ہیں

الَّذِي تَوَجَّهَ مَعْرَاجُهُ بِسُورَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

جن کے معراج کا تاج سورہ سبحان ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَقَاهُ اللَّهُ بِكَأْسِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پلایا اللہ تبارک نے جام

الْوَحْيِ فَوْقَ سَهْوَتِهِ وَأَرَاهُ اللَّهُ مِنْ عَظِيمِ آيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ

وحی کے ساتھ آسمانوں سے اوپر اور دکھلائیں انہیں اپنی عظیم آیات اور مخلوقات۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس

الَّذِي مَانَرَاغَ بَصْرُهُ وَمَا طَغَى وَأَمَحَتْ فَصَاحَتُهُ فَصَاحَةٌ

محبوب کی نگاہ نہ تو پھری دوسری طرف اور نہ حد سے بڑھی اور محو کردیا ان کی فصاحت نے تمام فصحاء کی

الْفُصْحَاءِ وَبَلَاغَةُ الْبُلْغَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فصاحت اور بلغاء کی بلاغت کو۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَايِمُ الْعَرْشِ تَشْتَاقُ لِلْقِيَاءِ

اور آپ کی آل پر کہ عرش اعظم کے ستون مشتاق ہیں اس محبوب کے دیدار کے



وَالْمَلَائِكَةُ كَانُ يَرَى بِلِحْظِهِ الْمَصُونِ مَا خَفِيَ عَنِ الْعِوُنِ اللَّهُمَّ  
اور ملائکہ بھی - دیکھتے تھے اپنی معصوم آنکھ کے گوشہ سے جو مخفی ہوتا تھا تمام نگاہوں سے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَبِلَ  
صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ قبول کیا

اللَّهُ خَشْوَعُهُ وَخُسُوعَهُ وَكَانَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ سُجُودُ مَنْ خَلْفَهُ  
اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے خشوع و خضوع کو اور نہیں مخفی رہتا تھا ان پر بیچھے والوں کا سجود

وَلَا رُكُوعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا  
اور نہ ہی رکوع اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ طَعَامُ صَنْعٍ لِعَشِيرَتِهِ الْاَقْرَبِينَ اللَّهُمَّ  
پر کہ جن کی بدولت مبارک کیا گیا وہ کھانا جو ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے تیار کیا گیا تھا - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن محبوب نے

اَرُوٰى بِقَدْحٍ مِّنَ الْمَاءِ تِلْكَ الْعَشِيْرَةُ وَاَشْبَعُ مِنَ التَّرِيْدِ  
سیراب فرمایا پانی کے ایک پیالے سے اس جماعت کو اور سیر فرمایا ثرید کے

بِمَقْدَا اِمْرٍ لَّقِمَةٌ مِّنْهُ اَبَاهُ رِيْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا  
ایک لقمہ سے حضرت ابوہریرہ کو - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عِنْدَهُ شَوْا ظًا شَيْبَةً  
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس دیکھا آگ کا شعلہ شبیبہ

بْنِ عَثْمَانَ وَنَالَ بِهٖ مِنْ شَيْبَةٍ وَسَاوَسُ الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ  
بن عثمان نے اور اس کے ذریعے شبیبہ سے دور ہو گئے و سو سے شیطان کے - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعَثْمَانَ  
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن محبوب نے فرمایا عثمان

بُنِ طَلْحَةَ يَقَعُ يَوْمًا فِي يَدَيْهِ مِفْتَاحُ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى الْجَنَانَ رَاةً  
بن طلحہ حجی کہ کہ میرے ہاتھ آئے گی ایک دن چابی کعبہ کی (جو آج تیرے قبضہ میں ہے) اور نماز جنازہ ادا فرمائی

عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيَّ حِيْنَ الْغَيْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا  
معاویہ لیثی پر باوجود مسافت طویلہ کے - اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اُلْهَمَ بِمِثْنِهٖ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ  
محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی بدولت الہام کیا گیا ہر ایک

رُسُلِهٖ لِسَانَ كُلِّ مَلَكٍ جَاءَ بِالْكِتَابِ اِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
رسول کو اس فرشتے کی زبان کا جو ان کی طرف کتاب لایا - اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَدَا عَلَيْهِ  
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے پاس صبح حاضر ہوئے

اَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ ضَحِكَ اللهُ فَلَانًا وَفَلَانَةَ اللَّهُمَّ  
ابو طلحہ تو آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے فلان (ابو طلحہ) اور فلانہ (ام سلیم) سے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

بَكَى لِبِكَاءِهَا اَصْحَابُ اَحَدٍ وَقَتْلَ بَدْعَايَهٗ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ وَدِّ  
رونے سے اصحاب احمد رو پڑے اور قتل ہوا آپ کی دعا سے عمر بن عبدود (جنگ خندق میں)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي نَبَعَ مِنْ بَيْنِ اَصْبَاعِ الْمَاءِ لِزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ فِي  
ابن پڑا آپ کی انگلیوں سے پانی (کا چشمہ) زیاد بن حارث کے لیے دوران

السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا  
سفر - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل





مُحَمَّدٍ الَّذِي رِبِحَ بِهِ فِي الصَّفَقَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّهُمَّ

پر جس محبوب کے صدقہ میں نفع مند ہوئے اپنی تجارت میں حضرت عبداللہ بن جعفر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

عَذْبُ بِهِ مَاءٌ سَهَّاهُ نَعْمَانٌ وَسَمَحَتْ لَهُ صُحْبَةُ قَوْمٍ غَطْفَانَ

برکت سے میٹھا ہو گیا رکھاری پانی جس کو اپنے نعمان کا لقب دیا، اور آپ کے لیے صحبت میں دلچسپی ظاہر کی قوم غطفان نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَلَبَهُ الْجَمَلُ فِي صَاحِبِهِ الَّذِي حَكَمَ عَلَيْهِ لِلسَّرْقَةِ أَنْ

جس محبوب کے ساتھ کلام کیا اونٹ نے اپنے مالک کے متعلق جس پر چوری کی وجہ سے

تُقَطَّعَ يَدَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آپ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَارَ الْمَاءُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ بَيْنِ

آل پر کہ جس محبوب کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مارنے لگا غزوہ

أَصَابِعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تبوک میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَتْ بِرِسَالَتِهِ طَبِيبَةُ الْأَعْرَابِيِّ بِلَا

آل پر کہ گواہی دی جن کی رسالت کی اعرابی کی بہرنے نے بغیر

مَرِيَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کسی مزدور کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا احْتَرَقَ بِهِ سَفْرَةٌ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَنَزَّادِيهِ طَعَامُ

آل پر کہ جن کے ہاتھ سے چھو جانے کی وجہ سے زحلا دسترخوان ابوالدرداء کا اور بڑھ گیا ان کی برکت سے

آلِ

آل پر کہ جن کے ہاتھ سے چھو جانے کی وجہ سے زحلا دسترخوان ابوالدرداء کا اور بڑھ گیا ان کی برکت سے

آلِ

آل پر کہ جن کے ہاتھ سے چھو جانے کی وجہ سے زحلا دسترخوان ابوالدرداء کا اور بڑھ گیا ان کی برکت سے

وَلَيْبَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فاطمہ زہراء کے دلہنہ کا کھانا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَخَلَ صَوْمَعَةَ الْيَهُودِ فَأَنْقَطَعَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جو آتما یهود کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو منقطع ہو گئیں

سَلَا سِلُّ الْقَنَا دَيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کی قندیلوں کی زنجیریں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ بِخُرُوجِ جَبْرِئِيلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ

آل پر کہ جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کو جبیریل کے بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے

أَصْحَابَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نکلنے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرَجَ بِبَيْنِهِ الْمَاءُ إِلَى رَأْسِ الْبَيْدِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

محمد پر کہ جس محبوب کی برکت سے بلند ہوا پانی کنوئیں کے سرے تک غزوہ تبوک میں

يَوْمَ نَوْبَةِ الْمُسْلِمِينَ وَغَارَ بِقَعْرِهَا يَوْمَ نَوْبَةِ الْكُفَّارِ اللَّهُمَّ

اہل اسلام کی باری کے دن اور گہرائی میں چلا گیا کافروں کے باری کے دن۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کی

صَارَ رَمْلًا وَرَمَادًا إِيَّاهُ الْأَحْجَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

برکت سے ریت اور راکھ کی مانند ہو گئے سخت پتھر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَالَ فِي صَوْمَعَةِ بَحِيرَا

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ مال ہو گیا بحیرا راہب کے عبادت خانہ میں

إِظْلَالِهِ الشَّجَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان پر سایہ کرنے کے لیے درخت۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل

آلِ

ان پر سایہ کرنے کے لیے درخت۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل

آلِ

ان پر سایہ کرنے کے لیے درخت۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل

آلِ



سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْضَرَّتِ الشَّجَرَةُ الْيَابِسَةُ حِينَ جَلَسَ

سیدنا محمد پر کہ سرسبز ہو گیا خشک درخت جبکہ آپ تشریف فرما ہوئے

تَحْتَهَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے نیچے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَلَمْتَهُ الْغَمَامَةُ وَلَقَطْتُ بِهِ الْأَرْضَ مُحَلِّمَ بَنٍ

پر جس محبوب پر سایہ ٹگن ہوئے بادل اور جن کی دھانے ہلاکت باہر پھینک دیا زمین قبر نے محلم بن

جَنَامَةَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جنامہ کو۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرُوِي بِفَضْلِ وَضُوئِهِ مَا فَوْقَ الْفَيْنِ اللَّهُ صَلَّى

جس محبوب نے سیراب فرمایا اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی سے دو ہزار سے زیادہ صحابہ کو۔ اے اللہ صلوات

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا

لِعَشْرٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّكُمْ جِئْتُمْ لَتَسْأَلُونِي عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ

اہل کتاب کی جماعت کو بے شک تم اس لیے آئے ہو تاکہ مجھ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي عَدِمَ رِبَهُ لِبَنَاتِ مَسْعُودٍ خُلُوفِ الْأَفْوَاهِ وَشَلَّتْ لَهُ

معدوم ہو گئی ان کی بدولت مسعود کی بیٹیوں کی گندہ دہتی اور شل ہو گیا آپ کی وجہ سے

يَدُ كَاتِبِ سَفَرِ الْعَهْدِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

(مقاطعہ والے) عہد نامہ کے کاتب کا ہاتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَبَاغِي الْقَمَرَ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ

آپ کی آل پر جو محبوب کہ چاند سے سرگوشی کرتے تھے اور اس کی طرف اشارہ کرتے

تَحْتَهَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو ادھر ہی مائل ہو جاتا جدھر اشارہ فرماتے جبکہ آپ نگھڑے میں تھے۔ اے اللہ صلوات و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ساتھ کلام فرمایا

فَاطِمَةُ وَهِيَ فِي بَطْنِ خَدِيجَةَ وَالْفَبَّ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

فاطمہ زہرا نے جبکہ حضرت خدیجہ کے بطن میں تھیں اور انہیں کے طفیل الفت پیدا فرمائی خاوند اور بیوی (مرغضے و بتول) میں

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن

الَّذِي انْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ لِظَمَاءِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

بدولت پھوٹ پڑا پانی کا چشمہ ابو طالب کی پیاس (بچھانے) کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس گواہی دی اونٹ نے

فِي بَيْلٍ إِلَى أَبِي جَانِبٍ يُشِيرُ إِذَا كَانَ فِي الْمَهْدِ اللَّهُ صَلَّى وَ

تو ادھر ہی مائل ہو جاتا جدھر اشارہ فرماتے جبکہ آپ نگھڑے میں تھے۔ اے اللہ صلوات و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ساتھ کلام فرمایا

فَاطِمَةُ وَهِيَ فِي بَطْنِ خَدِيجَةَ وَالْفَبَّ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

فاطمہ زہرا نے جبکہ حضرت خدیجہ کے بطن میں تھیں اور انہیں کے طفیل الفت پیدا فرمائی خاوند اور بیوی (مرغضے و بتول) میں

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن

الَّذِي انْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ لِظَمَاءِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

بدولت پھوٹ پڑا پانی کا چشمہ ابو طالب کی پیاس (بچھانے) کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس گواہی دی اونٹ نے

الْبَعِيرُ عَلَى مَدْعَى مَا لِكِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

اپنے مالک کے مدعی کے خلاف کہ یہ جھوٹا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أBRَأَجْرَحَ حَارِثَ بِنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے درست کر دیا حارث بن

أَوْسٍ وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْعَنْبُ وَالرَّمَانُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

اوس کا زخم اور تسبیح کہی ان کی ہتھیلی میں انگوروں اور اناروں نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِخَالِدِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا حضرت خالد

بْنِ الْوَلِيدِ إِنَّكَ تَجِدُ الْكَيْدَ دَوْمَةً وَزَالَ بِهِ الْحَنَاقُ اللَّهُ صَلَّى

بن الولید کو کہ تم پاؤ گے دومترا الجندل کے حکمران اکیدر کو کہ گرا چکا ہو گا اس کو فرما اونٹ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو ادھر ہی مائل ہو جاتا جدھر اشارہ فرماتے جبکہ آپ نگھڑے میں تھے۔ اے اللہ صلوات و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ساتھ کلام فرمایا



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَكَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئے

جَبْرِئِيلُ مَعَ الْمَوَكِبِ حِينَ رَجَعَ مِنَ الْخُنْدَقِ حَتَّىٰ رُئِيَ الْغُبَارُ

جبریل اپنے سواروں کی جماعت میں جبکہ لوٹے خندق سے حتیٰ کہ دیکھی گئی غبار

سَاطِعًا فِي الرَّقَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اُتْحَتِي هَوْنِي كَلْبِي فِي رَأْسِ الْكُفْرَانِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارَ بِهِ جَمَلُ خَدِيجَةَ عَلَيْهَا الرِّضْوَانُ وَ

آل پر کہ جنہیں لے چلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ اور ان پر

أَظْلَهُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ الْمَلَكَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ جُبْرَائِيلُ فِي ذَلِكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پڑھی جبریل علیہ السلام نے اس سفر میں ان

السَّفَرِ زِمَامَةً وَيُرِي مَا خَلْفَهُ كَمَا يُرِي مَا أَمَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی سواری کی لگام اور جو دیکھتے تھے پیچھے سے جیسے دیکھتے تھے آگے سے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ آپ جب کبھی رکعبہ کے گرد

كَلْبًا طَافَ قَبْلَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ خَرَلَهُ الْأَصْنَامُ سَجْدِينَ اللَّهُمَّ

طواف کرتے ظہور اسلام سے پہلے تو گر بڑتے اصنام حرم ان کے لیے سجدہ میں۔ لے اللہ

إِنِّي أَحْمَدُكَ عَلٰی شَرَفِ تَوْسَلِي بِأَشْرَفِ الْوَسَائِلِ مُحَمَّدٌ صَلَّى

میں تیری حمد کرتا ہوں میرے توسل کو مشرف کرنے پر ساتھ افضل ترین وسیلہ یعنی محمد کے صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَعِينُكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي بِجَاهِهِ الْأَعْلَى

اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں اپنے تمام امور میں ان کے اعلیٰ مرتبہ اور

اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں اپنے تمام امور میں ان کے اعلیٰ مرتبہ اور

اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں اپنے تمام امور میں ان کے اعلیٰ مرتبہ اور

وَسِرَّةِ الْأَعْلَى افْتَحَ لَنَا بَابَ حَضْرَاتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَهَادَةِ

بلند تر سر حقیقت کے طفیل۔ کھول ہم پر ان کے حرم ناز کا دروازہ اور بنا دے ہمیں ان کی ذات اقدس کا مشاہدہ

ذَاتِهِ وَقَرِّبْنَا لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ وَحَقِّقْنَا بِهِ فِي كُلِّ مَهْبِطٍ وَ

کرنے والوں سے اور ہمیں قریب فرما ان کے ہر مقام شہود میں اور انہیں کی بدولت قائم و ثابت رکھ ہر مقام نزول و

مَصْعَدٍ وَأَنْزِلْ إِلَهُ وَصَحْبَهُ مِمَّا أَنْزَلْتَهُ مِنَ التَّسْلِيمِ بِالتَّبْعِيَّةِ يَا

صعود میں اور پہنچا ان کی آل اور اصحاب کو ان کے طفیل میں وہ تسلیات جو انہیں عطا کئے ہیں لے

عَلَىٰ يَا حَلِيمُ اللَّهُمَّ ارزُقْنَا بِتَرْقِيَةٍ وَأَسْقِنَا بِتَسْقِيَةٍ مَنْ

بزرگ و برتر لے علم والے۔ لے اللہ ہمیں ترقی عطا کر اور ہمیں پلا اپنے عرفان کے

حَوْضِ عَرْفَانِكَ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ حَيَاةِ أَبَدِيَّتِكَ لَا نَظْمًا بَعْدَهَا

حوض سے ٹھنڈا پانی حیات ابدیہ والا جس کے بعد کبھی ہم پیا سے

أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

نہ ہوں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ حَلِيَّةِ الْمَرَاةِ الْمَخْطُوبَةِ لِعَالِشَةِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

کہ جس محبوب نے (نور نبوت سے) بیان فرما دیا اپنی منسوبہ کا حلیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي بُوْرَكَ بِهِ طَعَامُ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللَّهُمَّ

کہ جن کی بدولت بابرکت کیا گیا حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ کا کھانا۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلا دیا

أَحْرَقَتْ مَعْشَرَ النَّصَارَىٰ مِنْ أَجْلِهِ النَّارُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَامُ

نہرا میوں کی جماعت کو ان کی وجہ سے آگ نے جس کو نازل فرمایا اللہ غیبوں کے جاننے

نہرا میوں کی جماعت کو ان کی وجہ سے آگ نے جس کو نازل فرمایا اللہ غیبوں کے جاننے



الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ لِحَيْمَةِ شَانِهِ الْغَنَمُ وَالْجَبَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى  
 حَجَرٍ فَخَرَجَتْ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ نَخْلَةٌ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَانَبَتْ بِهِ  
 رَبَاعِيَةٌ أَوْلَادٍ مِنْ كَسْرٍ بِأَعْيَتِهِ الْكَرِيمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَخْتَفِي الضَّبُّ  
 الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِهِ حِينَ دَخُولِهِ الْبَيْتِ وَيَخْرُجُ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ  
 بَيْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 الَّذِي صَارَ بِهِ الْجَدُّ حَرِيرًا لِلْحَسَنَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى سَرِيرَةَ أَصْحَابَةِ  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى سَرِيرَةَ أَصْحَابَةِ

والے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل  
 پر کہ بیان کیا علیہ سعیدیہ پر ان کی شان کو بھیڑ بگریوں اور دراز گوش نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے رکھا اپنا پائے ناز

پتھر پر تو آپ کے قدم مبارک کے نیچے سے عظیم کھجور برآمد ہو گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہ آگاہ بسبب ان کے

اس شخص کی اولاد کا سامنے والا دانت جس نے آپ کے دانت (کا کنارہ) توڑا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ چھپ جاتا تھا سوسمار

جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آپ کے گھر میں تشریف لانے پر اور ظاہر ہوتا تھا آپ کے گھر سے باہر

تشریف لے جانے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

کہ ہو گئی آپ کی بدولت سخت زمین مانند ریشم کے واسطے حسین رضی اللہ عنہما کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دیکھ لیا احمہ نجاشی کے جنازہ کو

مَنْ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ بِحَدَقَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عَائِشَةَ بَعْدَ كَمَالِ  
 الْخَلْقِ وَالتَّصْوِيرِ وَحَمَلَهَا الْمَلِكُ فِي خُرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدَّثَ  
 قُرَيْشًا بِقُدُومِ الْعِيرِ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ  
 بِخَوَاصِّ الْأَسْرَى وَبِمَارَايِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ  
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
 أَنْكَفَأَ لَهُ الْقَدْحَ فِي الظَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ قُرَيْشًا بِرُؤْيَةِ الْعَيْرِ وَأَيْنَ بَاتَ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 الَّذِي رَأَى سَرِيرَةَ أَصْحَابَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دو ماہ کی مسافت سے سر کی آنکھوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی تخلیق و تکمیل پر

اور اٹھائے ہوئے تھا فرشتہ انہیں ریشمی کپڑے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے آگاہ فرمایا

قریش کو ان کے شام سے قافلہ تجارت کی آمد کے متعلق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اپنے اصحاب کو

اسراء کے خواص کی اور جو دیکھی تھیں اپنے رب کی بڑی آیات۔ اے اللہ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے

الٹ گیا پیالا تاریخی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی قریش کو (شب اسراء) ان کا قافلہ دیکھنے کی اور جہاں اس نے رات گزاری



أَخْبَرَ قُرَيْشًا وَاسْتَبَطُوا خَبْرَهُ وَمَنْعَ اللَّهُ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى قَدِمَ

قریش کو خبر دی اور انہوں نے اس کو موخر جانا اور روک دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو حتیٰ کہ آگیا وہ قافلہ ان پر دن چڑھنے سے قبل جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے سر کی آنکھوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے خبر دی بعض صحابہ کو اور قرابتداروں کو اویس قرنی کے لباس کی اور شفاعت کرنے کی

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَ السَّيِّدِينَ أَشْعَلَ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدًا مَا بَيْنَ مَنْكَبَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی سیدین (عمر و علی رضی اللہ عنہما) کو کہ (اویس) روشن آنکھوں والے اور چوڑے کندھوں والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس لگائے ہوئے ہونگے

ضَارِبٌ بِذَقِينِهِ إِلَى صَدْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی ٹھوڑی کو سینہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ وہ اپنی نظروں کو موضع

سُجُودِهِ وَوَأَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سجود پر لگائے ہوئے ہوں گے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے ہوں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس کے بائیں کندھے کے نیچے برص

لَمَعَةً بَيْضَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کا سفید داغ ہو گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَعْتَدِلَ الْقَامَةِ شَدِيدُ الْأَدَمَةِ ذُرُوفَةٌ وَرَحْمَةٌ

پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس میاں قد سخت گندم گول اور رافت و رحمت کے پیکر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَ أَنَّ يَشْفَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خبر دی کہ اویس اس امت کے بہت سے افراد کی شفاعت کریں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ وَهُوَ كَانَ يَقْرَأُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے نصیر دی کہ وہ

الْقُرْآنَ وَيُبْكِي عَلَى نَفْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قرآن پڑھتا تھا اور روتا تھا اپنے نفس پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَّى ابْنَ أُمِّ الْفَضْلِ الَّتِي جَاءَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے ام الفضل کے بیٹے (عبداللہ) کا نام رکھا ابو الامراء (خلفاء کا باپ) جنکو لیکر

بِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَكَدَّتْهُ أَبَا الْأَمْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی بارگاہ میں آئی تھیں جبکہ اسے جنم دیا تھا " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَتَاهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے پاس آئے روح الامین

عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

رب العالمین کی طرف سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَكَبَهُ الْبَرَّاقُ وَخَرَقَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ

آپ کی آل پر جنہیں براق نے اپنے اوپر سوار کیا اور جنہوں نے پھاڑا ساتوں آسمانوں کو



بِبِأَشْرَةِ جَمَالِ الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 اپنے جلال جمال آمیز کی مدد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زُفَّتْ عَلَيْهِ مُخَدَّرَاتُ الْكُونَيْنِ  
 اور آپ کی آل پر جن پر جمع کی گئیں کونین کی مستور اشیاء  
 وَأَسْرَارُ الْكُونَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 اور کونین کے اسرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ  
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَقَتْ عَلَيْهِ أُمُورُ الدَّارَيْنِ وَعُلُومُ  
 کی آل پر جس محبوب پر روشن ہوئے دارین کے امور اور  
 الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
 ثقلین کے علوم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَتَتْهُ رُسُلٌ مَسْلَمَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْأَفْقِ  
 آل پر جس محبوب کے پاس مرسلین کے سردار سلام پیش کرنے کیلئے حاضر ہوئے جبکہ آپ آسمان  
 الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 بالا پر تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل  
 مُحَمَّدٍ أَقْبَلَتْ مُلُوكُ الْأَمْلاَكِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ  
 پر کہ جس محبوب کی طرف متوجہ ہوئے ملائکہ کے بادشاہ درآخالیکہ دوڑتے تھے ان کے آگے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر  
 دَهْشَتُ بِجَمَالِهِ أَبْصَارُ سُكَّانِ الصَّفِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 کہ جن کے جمال سے مدہوش ہو گئیں بلند ترین مقام پر رہنے والوں کی آنکھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ  
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَشَعَتْ  
 و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جھک گئیں

لَهَيْبَتِهِ أَعْنَاقُ أَهْلِ السَّرَادِقَاتِ الْأُسْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 جن کی ہیبت کے آگے گردنیں روشن خیموں والوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَضَعَتْ لِعِزَّتِهِ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جھک گئے ان کی عزت کے لیے  
 رَعُوسُ أَصْحَابِ صَوَامِعِ الثُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
 ثورانی عبادت گاہوں والوں کے سر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَخَصَتْ لِكِبَالِ مَجْدِهِ أَعْيُنُ  
 محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بلند ہوئیں ان کے (مشاہدہ جمال) کے لیے  
 الْكُرُوبِيِّينَ وَالرُّوحَانِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 کروہیوں اور روحانیوں کی نگاہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَفَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ صُفُوفًا مِّنْ  
 اور آپ کی آل پر کہ کھڑے ہوئے جس محبوب کے لیے ملائکہ مقربین سے  
 الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 صفیں باندھ کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل  
 مُحَمَّدٍ الَّذِي ابْتَهَجَتْ بِهِ حَطَايِرُ الْقُدْسِ بِأَوَّلِ زَجَلِ الْمَسْبُوحِينَ  
 پر کہ خوش ہو گئے جن کی بدولت مقدس محفوظ مکانات (عالم بالا کے) تسبیح کہنے والوں کی پہلی گونج سے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ  
 اهْتَزَّ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ طَرِبًا بِرُؤْيَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 جھوم اٹھے عرش اعظم اور کرسی ان کے دیدار کی خوشی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُرِيدُ الْجَنَانَ وَالْحُورُ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مزین کیا گیا جنتوں اور خوبصورت حوروں کو





الْحَسَانُ فَرَحًا لِمَقْدَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی تشریف آوری کی خوشی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِهِ افْتَخَرَ الْعُلَى عَلَى الثَّرَى بِهَا

اور آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ فخر کیا بلندیوں نے پستیوں پر بسبب

رَأَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کے دیدار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي انْكَشَفَتِ الْعُلُومُ بِهِ لِعَيْنِ الْمُخْتَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر کہ منکشف ہوئے علوم بسبب ان کے پسندیدہ لوگوں کی نگاہوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُفِعَتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اٹھائے گئے ان کی بدولت

لِصَاحِبِ الْأَنْوَارِ بِهِ الْأُسْتَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل انوار پر سے پردے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَقَدَّمَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ إِلَى دَائِرَةِ وَمَا

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت آگے بڑھے روح الامین اس دائرہ تک " نہیں ہے

مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہم میں سے کوئی فرشتہ گلاس کے لیے معین مقام ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهُ لَهَا أَيُّهَا الْحَبِيبُ الْمُقَرَّبُ

اور آل سیدنا محمد پر کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انھیں اے حبیب مقرب

تَهَيَّأِ لِمَلَقَاتِ اللَّهِ وَحَدِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تیار ہو جاؤ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَجَّهُ اللَّهُ فِي الثُّورِ وَعِنْدَ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا نور میں (انتہاء درجہ) اور

التَّاهِي يُقْصِرُ الْمَتَطَاوِلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انتہاء پر پہنچنے کے بعد کوتاہ معلوم ہوتی ہیں دراز قامتوں کی طولانیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَهَى مَسْرَاةُ إِلَى مُسْتَوَى يَسْمَعُ

اور آل سیدنا محمد پر جن کا معراج ختم ہوا اس مقام استواء پر کہ سنتے تھے

فِيهِ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس میں کاتبان تقدیر کے قلموں کی آواز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَارَ عَلَى رَفْرِفِ الثُّورِ إِلَى أُنْفِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے سیر فرمائی ثورانی رفرف پر انفق اعلیٰ تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَارَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے پرواز کی

بِحَنَاجِ الْأَشْوَاقِ إِلَى مَقَامِ دَنِي فَتَدَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اشواق کے پروں کے ساتھ دنیٰ فتدلی کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْزَلَهُ فِي مَضِيفِ الْكُرْمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے صمان خانہ میں

فِي رَوْضَةِ قَابِ قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قاب قوسین کے سبزہ زار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَسَطَ لَهُ فَرَّاشَ الدُّنُوفِ رَاشٍ أَوْ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے بچھایا بچھانے والے نے بچھونا اُو اُو فی کے

أَدُنِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

قرب کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ مِنْ جَنَابِ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا

جس محبوب نے سنا رفیق اعلیٰ کی جناب سے "السلام عليك ايها



النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 وَالنبي ورحمة الله وبركاته - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَلَقَّاهُ الْحَبِيبُ بِالْأَكْرَامِ وَنَادَاهُ الْجَلِيلُ  
 اور آپ کی آل پر جن کی ملاقات کی حبیب (اللہ نے عزت کے ساتھ اور ندا دی ان کو رب جلیل  
 بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 نے سلام کے ساتھ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر  
 مُحَمَّدٍ بِسَطِّ مُنْقَبِضِ رَوْعَتِهِ وَأَنْشُ مُنْزَعِبِ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ  
 پر کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرمایا ان کے منقبض دل کو اور انس عطا کیا ان کے اضطراب و وحشت کو - اے اللہ  
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُودِيَ  
 صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو ندا دی گئی  
 بِمَخَاطَبَاتٍ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 ان خطابات کے ساتھ پس وحی کی طرف اپنے عبد خاص کے جو وحی کی - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُوشِفَ بَعِينٌ وَ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں مکاشفہ کرایا گیا اس آنکھ کے ساتھ  
 لَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى اللَّهُمَّ اِبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمَ وَ  
 "البتہ تحقیق دیکھا انہوں نے اس کو دوسری دفعہ اترتے" اے اللہ ان کو قائم فرما کرامت والے مقام محمود پر اور  
 آتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي  
 دے انہیں فضیلت اور مقام وسیلہ اور بلند ترین درجہ موقف عظیم میں جس کا تو نے ان کے ساتھ  
 الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً  
 وعدہ فرمایا ہے - اور صلوٰۃ بھیج اے اللہ ان پر صلوٰۃ دائم متصل  
 تَتَوَالِي وَتَدْوُمُ وَيَلْغُهُ سَلَامُنَا فِي سَلَامِكَ وَصَلَاتِنَا فِي صَلَاتِكَ  
 جو لگاتار اور مسلسل ہو اور پہنچا انہیں ہمارا سلام اپنے سلام میں اور ہماری صلوٰۃ اپنی صلوٰۃ میں

اللَّهُمَّ وَآتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ  
 اے اللہ اور عطا فرما انہیں فضیلت و وسیلہ اور شفاعت اور قائم فرما انہیں مقام محمود  
 الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ الشَّفِيعَ الْمُرْتَضَى وَالرَّسُولَ الْمُبْتَلَى اللَّهُمَّ  
 میں جس کا تو نے وعدہ دیا ہے اس شفیع مرتضیٰ اور رسول مجتبیٰ کو - اے اللہ  
 سَبِّقِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا وَالْبَرَكَاتِ وَالسَّلَامَ وَالرَّفْعَةَ وَالْعِزَّ وَالْإِسْنَاءَ  
 جلدی پہنچا تمام صلوات - برکات - سلام - رفعت اور عزت و سر بلندیوں  
 وَالشَّرْفَ وَالْكَرَامَةَ كُلَّهَا إِلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 اور شرف و کرامت تمام کی تمام سیدنا محمد کی قبر انور تک - صلی اللہ علیہ  
 وَسَلِّمْ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ آتِهِ نَهَايَةَ  
 وسلم و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین - اے اللہ عطا فرما انہیں ان مطالب کی  
 مَا يَسْأَلُهُ السَّائِلُونَ وَمَا يَرْغَبُ بِهِ الرَّاعِبُونَ أَفْضَلَ وَأَطْيَبَ  
 انتہاء جن کا سوال کرتے ہیں سائل - اور جن کی رغبت رکھتے ہیں رغبت والے در آئنا لیکہ وہ بہت افضل پاکیزہ  
 وَأَنْزُكِي وَأَنْهِي وَأَعْلِي وَأَقْرَبِ وَأَكْمَلِ مَا أَعْطَيْتَ أَحَدًا مِنْ  
 مصفیٰ تر اور بہت افزوں اور اعلیٰ اور قریب تر اور کامل تر ہیں ان تمام مطالب و مقامات سے جو تو نے عطا کئے  
 خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 اپنی تمام مخلوق میں سے کسی فرد کو - اے اللہ قبول فرما ہمارے نبی سیدنا محمد کی  
 الْكِبْرَى وَبَلِّغْهُ بِنظَرِكَ إِلَيْهِ نَهَايَةَ الْبُشْرَى اللَّهُمَّ بَلِّغْ رُوحَهُ  
 شفاعت کبریٰ اور پہنچا انہیں نظر عنایت سے بشارت کی انتہاء تک - اے اللہ پہنچا ان کی روح  
 الطَّاهِرَةَ مِنْهَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَأَجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَ  
 مقدمہ کو ہماری طرف سے افضل ترین صلوٰۃ و تسلیمات اور انہیں جزاء دے ہماری طرف سے افضل ترین اور  
 أَكْمَلِ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْحَبِيبِ  
 کامل ترین جزاء ان تمام جزاؤں سے جو تو نے کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دیں - اے اللہ اے حبیب محمد کے رب



مُحَمَّدًا صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ الْحَبِيبُ مُحَمَّدًا  
 صلوات و سلام بھیج حبیب محمد پر جیسے کہ تو محبوب رکھتا ہے حبیب محمد کو  
 يَا رَبِّ بَلِّغْ سَلَامِي ذَاتِهَا عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُصْطَفَى النَّقِيِّ النَّقِيِّ وَيَا  
 اے اللہ پہنچا میرا سلام ہمیشہ مصطفیٰ مصطفیٰ نقی و نقی کو اور اے  
 رَبِّ بَلِّغْ سَلَامَنَا عَلَى الدَّوَامِ بِإِلَّا كَرَامٍ عَلَى شَفِيعِ الْبَرَاءِ يَا وَلَا تُوَاخِذْنَا  
 پروردگار پہنچا ہمارے سلام ہمیشہ عزت و اکرام کے ساتھ سب مخلوقات کے شفیع پر اور ہماری  
 بِالْخَطِيَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِي لِمُحَمَّدٍ كَمَا تَجْعَلُ ثَوَابَ صَلَاتِكَ لِمُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ  
 خطاؤں پر مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ میری صلوات کا ثواب محقق فرما اپنے قابل ستائش پاکیزہ رسول کے لیے اور سلام بھیج  
 عَلَيْهِ وَآلِهِ أَهْلِ الثَّقَى اللَّهُمَّ فَصِّلْ وَسَلِّمْ مِنَّا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ  
 ان پر اور ان کی متقی آل پر۔ اے اللہ پس تو ہی صلوات و سلام بھیج ہماری طرف سے ان پر افضل ترین صلوات  
 وَأَكْمَلُ التَّسْلِيمِ فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمِ وَلَا نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهِ مِنْ  
 اور کامل ترین تسلیمات کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کی عظیم قدر و منزلت کا اور ہم نہیں جانتے ان کے شایان شان  
 الْإِحْتِرَامِ وَالْتَعْظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنِ فَجْتَةً وَفِي الْمُبْقَرِّينِ نُوْدَةً  
 احترام اور تعظیم کو۔ اے اللہ بنا اہل اصطفاء میں محبت ان کی اور اہل قرب میں مودت ان کی  
 وَفِي الْأَعْلَى ذِكْرَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 اور اہل علویں ذکر ان کا۔ اور سلام ہو ان پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات۔ اے اللہ صلوات  
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ  
 و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کی رونق اور سترت کی عروس  
 بِهَجَّتِهِ وَسُرُورًا عَلَى سُقْفِ عُرْفَاتِ النَّعِيمِ وَقُصُورِ الْأَهْلِ صَلِّ  
 جنتی نعمتوں والے بالا خانوں اور علات کی چھتوں پر۔ اے اللہ صلوات  
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ  
 و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کے انوکھے محاسن کی عروس

مَحَاسِنِهِ الْبَدِيعَةِ عَلَى مَبَانِي رُتَبَتِهِ الرَّفِيعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 ان کے رتبہ عالیہ کی عمارات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ فَرُكَيْهِ الْوَجِيه  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کی آبرومند سواری کی عروس  
 عَلَى مَجَلَا التَّنْوِيهِ وَالتَّنْزِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 تعظیم و تنزیہ کی جلوہ گاہ پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَرَكِبِهِ وَزَانَ فِي فَيْدَانِ  
 اور آپ کی آل پر کہ جن کا عروس مرکب جلوہ گر ہوا اور زینت پاگیا مسابقت کے میدان میں  
 الْمُسَابَقَةِ إِلَى حَضْرَةِ الْمَلِكِ الدِّيَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
 جزاء دینے والے بادشاہ کی بارگاہ کی طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ رِسَالَتِهِ عَلَى الْكُونِيْنَ  
 محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا عروس رسالت جلوہ نکلن ہوا کونین پر  
 وَأَدْمَرَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 جبکہ آدم علیہ السلام تھے پانی اور بھیت کے درمیان۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ وَصَالِهِ وَأَسْتَوْلَى يَوْمَ السُّتِ  
 آل پر کہ جن کا عروس وصال جلوہ نکلن ہوا اور غالب آگیا روز الست کے موجودین پر جبکہ اللہ نے فرمایا کیا نہیں میں  
 بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 رب تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں! اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ عِزَّةِ الْبَيْتَيْنِ عَلَى مَعَالِي قُصُورِ أَهْلِ عِلِّيِّينَ  
 آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی پائیدار عزت کا عروس اہل علیین کے محلات کی بلند یوں پر  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ  
 اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ نکلن ہوا ان کے



عَرَّوْسُ مَظَاهِرِ الْإِنْسَانِيَّةِ عَلَى غُرِّ أَفَاقِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مظاہر انسانیہ کا عروس عنایت ربانیہ کے آفاق کی پیشانیوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسُ مَعَالِمِهِ

فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ نغم ہوا ان کے مقام و نشانات کا عروس

الْمَعْتَادَةِ عَلَى مَرَاكِبِ الْبُيُوتِ أَهْلِ السَّعَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اہل سعادت کے پرچموں کے مراکز پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسُ سَعُودِهِ وَشُهُودِهِ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی سعادت اور مشاہدہ حقیقت کا عروس جلوہ نغم ہوا

وَهُوَ فِي ظُهُورِ آبَائِهِ وَجُدُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جیکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اصلاہ میں تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسُ ظُهُورِهِ وَفَشَا عَلَى نَمَارِقِ

اور ستینا محمد کی آل پر کہ جن کا عروس ظہور جلوہ گر اور آشکار ہوا اختصا کے گدوں اور قالینوں پر

التَّخْصِيصِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَى الْبِعْرَاجَ بِجَسْمِهِ وَفَضَّلَهُ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر گئے اپنے جسم اقدس کے ساتھ اور فضیلت دی ان کو

اللَّهُ فِي غَيْبٍ سَابِقٍ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب ازلی میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَكُنْ فَضِيلَةً إِلَّا سَبَقَ إِلَيْهَا وَلَمْ

آپ کی آل پر کہ جو محبوب ہر فضیلت کی طرف سبقت لے گئے اور نہیں تھا

تَكُنْ مَرْتَبَةً شَامِخَةً وَلَا مَنْزِلَةً فَاخِرَةً إِلَّا جَلَّ عَرَّوْسُ مَحْيَاةِ

کوئی بلند مرتبہ اور نہ قابل فخر منزلت مگر جلوہ گر ہوا ان کی شرم و حیا کا عروس

عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس پر اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو

الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

مخاطب اللہ عزوجل کے اس فرمان کے "اور نہیں مبعوث فرمایا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے

بَشِيرًا أَوْ نَذِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بشیر اور نذیر بنا کر" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَادَ عِنَانَ التَّدْوِيِّ وَسَادَةَ وَقَلَدَهُ اللَّهُ قَلَادَةً

کہ جس محبوب نے کھینچی باگ مجلس مشاورت کی اور اس کے سردار بنے اور پہنائے انہیں اللہ تعالیٰ نے

التَّخْصِيصِ وَزَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اختصاص کے ہار اور ان کو فرقیات دی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ستینا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَتْ لَهُ وَسَادَةَ التَّكْرِيمِ عِنْدَ

ان کی آل پر کہ جن کے لیے رکھا گیا تکیہ عزت و تکریم کا ان کے تشریف لانے پر

وَرُودِهِ وَطَلَعَ شِعَاعُ سَجْفِ الْهُدُوجِ مِنْ مَطَالِعِ وَجُودِهِ اللَّهُمَّ

اور طلوع ہوئی شعاع سجدہ کے پردوں کی ان کے وجود مسعود کے مطالع سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَمَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهُ وَمَشَى عَلَى

بلند ہوئے تمام آسمانوں پر جبکہ ملائکہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے اور چلے اللہ تعالیٰ کے

مَظَاهِرِ عَرْشِ اللَّهِ وَالْحُجُبُ تَحْرُقُ دُونَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عرش کے مظاہر پر اور محجبات ان کے آگے سے پھاڑے جا رہے تھے۔ اے اللہ صلوات اور

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَلَّعَهُ الْمَلَائِكَةُ

سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہلی صفوں والے ملائکہ جن کی تشریف آوری کی



مَبَشِّرَاتٍ بَقَدُومِهِ وَأَفَادَ مَسْرَاهُ مَنْ مَا شَاءَ بِدَقَائِقِ بِحُورِ عُلُوبِهِ  
 بشارت دینے والے تھے اور فیضان بختنا ان کے اسراء نے ان کے ساتھ چلنے والوں کو ان کے علمی سمندروں کے ذائقہ کا  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر  
 الَّذِي وَهَبَ إِهَابَ الْهَيْبَةِ وَأَدِيرَتُ عَلَيْهِ كُؤُوسَ الْمَحَبَّةِ  
 کہ جس محبوب کو ہیبت کی خلعت بشری عطا کی گئی اور ان پر گردش میں لائے گئے محبت کے جام  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
 لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ممکن ہوئے  
 اسْتَوَى عَلَى كُرْسِيِّ الْجَلَالِ مُنْتَبِطًا وَعَلَى أَرَائِكِ الْكَمَالِ مُتَكِيًا  
 کرسی جلال پر سواری کی مانند اور کمال کی مزین کرسی پر اوٹ لگائے ہوئے تھے۔  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
 لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی  
 كَوْنِ الْكُونِ مِنْ أَجَلِهِ وَجَمِيعِهِ مَا فِيهِ تَسْتَظِلُّ بِظِلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 خاطر جہان بنایا گیا اور اس جہان میں جو کچھ ہے وہ انہیں کے سایہ میں پرورش پاتا ہے۔ لے اللہ صلوات  
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعَ  
 و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے طے کیا  
 مَقَارَةَ الدُّنْيَا عَلَى جَوَادِ الْقَنَاعَةِ وَالْجُودِ وَهُوَ خَلَاصَةُ الْجُودِ  
 دُنیا کے بیابان کو قناعت اور جود کے رہوار پر اور وہ خود خلاصہ و جوہر ہیں جود خداوندی کے  
 فِي الْوَجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
 جملہ موجودات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَفَى إِلَى حَضْرَةِ الْحَقَائِقِ لَا يَسْبِقُهَا إِلَيْهَا  
 آل پر کہ جو محبوب بلند ہوئے حضرت حقائق تک کہ نہیں سبقت لے جا سکتا ان پر ان حقائق کی طرف کوئی

سَابِقِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 اہل سبقت۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر  
 مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَفَى فِي حَدَائِقِ الْقُرْبِ وَالْوُصَالِ وَوَقَفَ عَلَى  
 جن کو کھلایا اور سیر کیا گیا قرب و وصال کے باغات میں اور جا ٹھہرے نجات  
 شَاطِئِ النَّجَاةِ وَالْوُصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 و وصال کے کنارے پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُؤُوسَ الْمَعْرِفَةِ  
 اور آپ کی آل پر کہ جن پر گردش میں لایا اللہ تعالیٰ معرفت کے جام  
 وَرَفَقَهُ اللَّهُ إِلَى مَقَامٍ يَجْلُ عَنْ التَّكْيِيفِ وَالصِّفَةِ اللَّهُمَّ  
 اور بلندی بخشی ان کو ایسے مقام تک جس کی کیفیت و حالت بیان سے باہر ہے۔ لے اللہ  
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
 صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں  
 عَلَيْهِ اللَّهُ جَوَاهِرَ الْعُلُومِ فِي الْحَضْرَةِ وَكَلِمَةَ اللَّهِ عَلَى بِسَاطِ  
 اللہ تعالیٰ نے سکھائے جوہر علوم اپنی بارگاہ میں اور کلام کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد  
 الْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ فَالْقَادِرُ هُوَ الْقَادِرُ وَالْقُدْرَةُ  
 اور قوت برداشت کے مطابق۔ لے اللہ تو ہی صاحب قدرت ہے پس حقیقی صاحب قدرت وہی قادر ہے اور اسکی  
 الْقَادِرُ وَالْقُدْرَةُ قُدْرَةٌ وَفِي الْقُدْرَةِ قُدْرَةٌ وَفِي التَّقْدِيرِ  
 قدرت قادر ہے اور اس کی قدرت ہی حقیقی قدرت ہے اور اس کی قدرت میں ہی قدرت ہے اور اس کی تقدیر میں  
 قُدْرَةٌ وَفِي التَّقْدِيرِ قُدْرَةٌ قَادِرٌ رَبِّي قَدَّرَ قَضَاءَ فَفَقَهَرُ  
 قدرت ہے اور تمام تقدیرات میں قادر کی قدرت (مؤثر) ہے جو میرا رب ہے۔ اس نے ازلی فیصلے خاص انداز پر کئے  
 أَقُولُ بِأَقْرَبِ قَارِعٍ قَرَقُشٌ فِي قَيْقُوشٍ بِحَقِّ قَلَانِسِ





الْقُطْبِ الْقَبْقَابِ الْقَنَامِ فَقَرَقِرِي تَقْبِلُ بِقُبُولِ قُرْبٍ قَدَّسَ  
ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور

عَنِ الْقَرَامِ قِيَا قِيَوْمٍ بِقَوْمِهِا فِي قِيَا تٍ بِفُقْفَقَةٍ فَقَهْرُ  
صاحب تصنیف ہی جانت ہے

قَطَا طُنٌ وَقَسِمِ فَقْنَهُ يَأْ قَوِيُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا  
لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ لَهُ الْبَابَ وَرَفَعَ عَنْهُ  
محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے اللہ نے اپنے (حرم نازکا) دروازہ کھولا اور ان سے

الْحِجَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
حجاب اٹھا دیا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْتَرَقَ الْاُفَاقَ عَلَي مَتْنِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
آل پر جس محبوب نے پھاڑا اور عبور کیا آفاق کو براق پر۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَى سَبْعَ  
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بلند ہوئے سات

الطَّبَاقِ إِلَى حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا  
طبقات سماویہ پر تا آسمان اصل ہوئے شہنشاہِ خلاق کی بارگاہ تک۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارَ بِهِ جَبْرِيْلُ إِلَى  
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو لے گئے جبرئیل علیہ السلام بارگاہِ رضا

حَضْرَةِ الرِّضَا وَتَنَزَّكَ فِي الرِّيَاضِ الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ اللَّهُمَّ  
تک اور جنہوں نے سیر فرمائی سفید چمکتے موتی جیسے باغات میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو

أَيْقَظَهُ جَبْرِيْلُ مِنْ مَنَامِهِ وَحَمَلَهُ إِلَى مَحَلِّ تَعْظِيمِهِ وَأَكْرَامِهِ  
بیدار کیا جبرئیل نے خوابِ نریشیں سے اور اٹھا کر لے گیا انہیں ان کی عظمت و کرامت کے مقام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ محبوب

الَّذِي لَهَا جَمْعُ الْبُرَاقِ عِنْدَ رُكُوبِهِ عَلَيْهِ نَادَاهُ جَبْرِيْلُ  
کہ جب سرکشی کی براق نے ان کے سوار ہوتے وقت تو جبرئیل نے اس کو کہا

أَسْكُنْ فَمَا رَكِبَكَ أَكْرَمَ عَلَي اللَّهِ مِنْهُ وَلَا أَعَزَّ مِنْهُ لَدَيْهِ  
سکون سے کام لے کیونکہ نہیں سوار ہوا تجھ پر ان جیسا عزیز والا نزدیک اللہ تعالیٰ کے اور ان جیسا عزیز اس کی بارگاہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ان کی وجہ سے

أَرْفَضَ الْبُرَاقِ مِنْهُ عَرَقًا وَارْتَعَدَتْ فَرَأَيْصُهُ حَيَاءً وَفَرَقًا  
براق کا پسینہ چھوٹ گیا اور لرزنے لگے اس کے اعضاء از روئے شرمندگی اور خوف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَارَ بِهِ الْبُرَاقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَطَعَهُمَا بِالطُّوْلِ  
کہ جنہیں لے چلا براق درمیان آسمان اور زمین کے اور طے کیا اس نے دونوں کو

وَالْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
طول اور عرض میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَخَرَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ بِمَسِيرَةِ  
آل پر کہ فخر کیا ارض مقدسہ نے ساتھ ان کے اس کی طرف تشریف لے جانے

أَيْبَاهَا وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِوُطْئِهِ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
کی وجہ سے اور جگمگا اٹھی وہ زمین آپ کے پائے ناز رکھنے سے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما







وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَفَّتْ بِهِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ گھیرا ڈالا ان کے گرد

الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ الْمَتَوَجِّهُ إِلَىٰ سِتْرِ الْجَلَالِ الْمَدْبُوحَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ملائکہ نے جبکہ وہ متوجہ تھے پردہ جلال کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ أَبُوهُ

سلام فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کو سلام پیش کیا ان کے باپ

آدَمُ وَجَدَّادٌ مَعَهُ حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ تَقَادَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آدم علیہ السلام نے اور تازہ کیا ان کے ساتھ عہد قدیم کی گفتگو کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَهُ آدَمُ عَنْ حَالِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن سے دریافت کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا حال اور

وَبَشَّرَهُ بِنَبِيلٍ وَصَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بشارت دی انہیں وصل خداوندی کے حصول کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَّ آدَمُ بِرُؤْيَيْهِ وَاسْتَبَشَّرَ بِاشْرَاقِ طَلْعَتِهِ

آپ کی آل پر کہ جن کے دیدار سے مسرور ہوئے آدم علیہ السلام اور خوش و خرم ہوئے ان کی طلعت زیبکے انوار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

انْتَشَرَتْ دُرَرُ الْفَاظِهِ فَالْتَقَطَهَا الْمَلَائِكَةُ عُلُومًا وَانْتَضَمَتْ

الفاظ کے موتی بھرے تو انہیں ملائکہ نے چن لیا از روئے علوم (اسرار) کے اور مرتب ہوئے

فَوَائِدُهُ فَتَزَيَّنَتْ بِهِ السَّمَاءُ نُجُومًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ان کے فوائد تو مزین ہوئے آسمان ساتھ ان کے از روئے ستاروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَعَدَ يَخْتَرِقُ الْحُجُبَ وَسَبَقَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو بلند ہوئے حجابات عظمت کو عبور کرتے ہوئے سبقت لے گئے

بِصُعُودِهِ الْبُرُقِ وَالسُّحُبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی بلند پروازی کی وجہ سے برق اور سحاب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُبَجِّلُهُ وَالْمُنَادِي

اور آپ کی آل پر کہ ملائکہ جن کی تعظیم کرتے تھے اور ندا دینے والا

يُنَادِي هَذَا الَّذِي شَقَّ لَهُ قَبْرُ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

پکار کر کہتا تھا یہی ہیں وہ جن کے لیے توڑا گیا آسمان کا چاند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى لِبَطَالِعَةِ الْأَنْوَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے سیر فرمائی انوار النبیہ کے مطالعہ کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي رُدَّتْ لَهُ شَمْسُ النَّهَارِ اللَّهُمَّ

شب امراء چلے اور نداء دینے والا پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہی ہیں جن کے لیے سورج لوٹا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے سیر فرمائی

إِلَىٰ حَضْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

بارگاہ ذوالجلال و الاکرام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمائی اور منادی حق اعلان کر رہا تھا

هَذَا خَيْرُ الْأُمَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

یہی ہیں سب امتوں کے سردار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَىٰ أَرْفَعِ مَكَانٍ وَمَقَامٍ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمائی بلند ترین مکان اور اعلیٰ مقام و مرتبہ تک





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں  
 الذی سرى والمنادی ینادی هذا عروس دار السلام  
 نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں دولہا دارالسلام کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر  
 الذی سرى الى محل التعظیم والتوقیر اللهم صل وسلم  
 جو معراج میں پہنچے تعظیم و توقیر کے (اعلیٰ مقام تک) لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سرى والمنادی  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا اور منادی حق  
 ینادی هذا بشیر ونذیر اللهم صل وسلم على سيدنا  
 اعلان کرتا تھا یہ ہیں بشیر و نذیر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا  
 محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سرى والمنادی  
 محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص فرمایا  
 الله بروياہ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى  
 اپنے دیار و ذات کے ساتھ۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 آل سيدنا محمد الذي سرى والمنادی ینادی هذا  
 آل پر جنہوں نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں وہ جو  
 خير من نبأه الله واصطفاه اللهم صل وسلم على  
 بہتر ہیں ان تمام حضرات سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور منتخب فرمایا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سرى الى  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا



مَنْزِلَةٍ عِنْدَ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم منزلت تک۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور  
 على آل سيدنا محمد الذي سرى والمنادی ینادی  
 آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کرتا تھا کہ  
 هذا حبيب الله ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وعلى آل سيدنا محمد الذي سرى الى قاب قوسين  
 اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا مقام قرب میں کمان کے دو کناروں کی مقدار  
 أو أدنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى  
 بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 آل سيدنا محمد الذي سرى والمنادی ینادی هذا  
 آل پر کہ جس محبوب کے معراج پر منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں کہ  
 الذي نبأه الله وأدم بين الماء والطين اللهم صل  
 جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور لچھڑ میں تھے۔ لے اللہ صلوٰۃ  
 وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المعنى  
 و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب مصداق ہیں  
 بقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى  
 اللہ تعالیٰ کے اس قول کا " اللہ وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے رسول کو ہدایت اور  
 ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ط  
 دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ  
 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبداً أبداً الى  
 محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ہمیشہ اور لا تعداد تا





يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ قِيَامَ قِيَامَتِي - اے اللہ بے شک تو سنتا ہے میرا کلام اور دیکھتا ہے میرا مکان اور جانتا ہے میرا باطن اور ظاہر۔ نہیں مخفی کچھ پر کوئی شئی میرے معاملات سے۔ میں مصیبت زدہ محتاج اور الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف فریادی ہوں۔ پناہ کا طلب گار ہوں۔ خوفزدہ۔ ڈرنے والا ہوں۔ اقراری اور معترف ہوں

يَا نَبِيَّ اسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمَسَاكِينِ وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالِ الْمَذْنِبِ اپنے گناہوں کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مانند مساکین کے اور نزاری کرتا تیری طرف مانند زاری کرنے گناہگار الذلیل و ادعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبتك وفاضت لك عبرته وذلك لك جسمه شخص کے کہ جھکی ہے اس کی گردن تیرے لیے اور ابل پڑے ہیں آنسو اس کے تیرے لیے اور مطیع فرمان ہوا اس کا جسم و رعم لك انفة اللهم لا تجعلني بدعائك شقيبا وكن لي رءوفا رحيبا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم لك صلاتي ولسكني ومجياي ومهابتي وايبك ما بي ولك رب ترائي ہے میری نماز اور قربانی اور میری زندگی اور موت اور تیری طرف ہے میرا رجوع۔ اور تیرے ہی ملک میں ہے اے اللہ

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهُوَ انِي عَلَى مِيرِي وَرَأْت. اے اللہ تیری طرف ہی شکایت کرتا ہوں اپنی ناتوانی کی اور اسباب کی قلت اور لوگوں کے ہاں بے قدری

النَّاسِ رَبِّ النَّاسِ إِلَى مَنْ تَكَلَّمِي إِلَى عَدُوِّ يَتَجَهَّمَنِي أَمْ إِلَى كِي اے رب تمام لوگوں کے مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس دشمن کے جو مجھ پر اچانک حملہ آور ہو گیا طرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَرِيبَ مَمْلَكَتِهِ أَمْرِي إِنْ لَمْ تُكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي غَيْرَ أَنْ اس قریبی کے جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے (ان کی پرواہ نہیں مگر یہ کہ تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ مجھے اس طرح بنا کہ تیرا تنگ زیادہ کروں اور تیرا ذکر بکثرت کروں وَأَيُّهُ نَصِيحَتِكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَ تیری نصیحت پر عمل پیرا رہوں اور تیری وصیت کو نگاہ میں رکھوں۔ اے اللہ بے شک ہمارے دل اور نَوَاصِينَا وَجَوَارِحُنَا بِيدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاذْ فَعَلْتَ پیشانیاں اور جملہ اعضاء تیرے دست قدرت میں ہیں تو نے ان میں سے کسی کا ہمیں مالک نہیں بنایا پس جب تو نے کیا ذلِكَ بِنَافِكُنْ أَنْتَ وَلِيْنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ اللَّهُمَّ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو خود ہمارا متولی امور ہو اور ہمیں گامزن فرما سیدھی راہ پر۔ اے اللہ اجْعَلْنِي أَحْشَكَ كَأَنِّي أَسْأَلُكَ أَبَدًا حَتَّى الْقَاكَ وَأَسْعِدْنِي مجھے نائے اس طرح کہ ڈروں تجھ سے گویا کہ تجھے دیکھ رہا ہوں (یہ حال) ہمیشہ برقرار ہو یہاں تک کہ میں تجھ سے ملاقات کروں اور مجھے سعادت مند بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَأَرْضِنِي فِي قَضَائِكَ وَبَارِكْ بِنَافِقَتِي كَيْ سَاحَتْ لِي بِعَصِيَّتِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ اپنی تقدیر میں حتی کہ میں نہ پسند کروں اس امر کی تعجیل جسے تو نے مؤخر کیا اور نہ اس کی تاخیر جسے تو نے جلد موجود

وَأَجْعَلْ غَنَائِي فِي نَفْسِي اللَّهُمَّ الطُّفُّ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ كَيْبَا اور پیدا فرما استغناء میرے دل میں۔ اے اللہ طفت فرما مجھ پر ہر مشکل کو آسان عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَ فرمانے میں۔ کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنا تجھ پر سہل ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے سہولت اور الْمَعَاْفَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفُوٌّ عَفُوٌّ وَ در گزر کا دُنیا و آخرت میں۔ اے اللہ مجھ سے در گزر فرما بے شک تو در گزر فرمانے والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



كَرِيمٌ وَأَسْأَلُكَ بِمَكُونَاتِ مَحْرُوسَاتِ رَحْمَتِكَ وَبِلَوَائِعِ رَأْفَتِكَ  
 اور میں سے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے پوشیدہ محفوظ خزانوں کے طفیل اور تیری رأفت کے انوار کے صدقوں  
 وَبِجَلَالِ عَظِيمِ نِعْمَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيَّ مَحِيطًا بِكُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرَةٍ  
 اور تیری عظیم نعمتوں کی جلالت کے توسل سے کہ تو میرے علم کو محیط بنا دے ہر چیز پر ظاہری  
 وَبِاطْنِهِ وَرَفِيعِهِ وَجَلِيلِهِ أَوَّلِهِ وَأَخْرَجَهُ فَاتِحَتِهِ وَعَاقِبَتِهِ حَتَّى  
 اور باطنی پر رفیع اور جلیل پر اول و آخر پر اور آغاز و انجام پر حتی کہ میں  
 أَغْرَقَ فِي إِنْسَاطِ أَسْرَارِ وَحْدَتِكَ وَأَنْتِشَارِ دَقَائِقِ فَضْلِكَ  
 مستغرق ہو جاؤں تیرے اسرار وحدت کے پھیلاؤ اور تیرے دقائق فضل کی وسعتوں میں  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِ الْحَقَائِقِ  
 بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما حقائق غیبیہ کے نور پر  
 الْغَيْبِيَّةِ الْمُسْتَكْنَةِ فِي وَحْدَةِ الذَّاتِ الْوَحْدَانِيَّ وَسِرِّ الدَّوَاتِ  
 جو مستور ہیں ذات وحدانی کی وحدت میں اور موجودات غیبیہ کے  
 الْعَيْنِيَّةِ الْبَارِزَةِ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْكُونِيِّ الْخَاقَانِيَّ مُحَمَّدٍ  
 ستر حقیقت میں جو ظہور پذیر ہیں وجود خارجی خاقانی کے مراتب میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں  
 الشَّافِي لِمَرْضَانَا وَالْهَادِي لِمَنْ ضَلَّ مِنْ مَنَاحِبِ الْخَالِقِ وَ  
 جو شفا بخشنے والے ہیں ہمارے مریضوں کو اور ہدایت دینے والے ہیں ہمارے گمراہوں کو جو حسیب ہیں خالق اور  
 الْخَلْقِ وَأَسْطَةِ الْإِرْتِبَاطِ بَيْنَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَرَابِطَةِ  
 مخلوق کے، ذریعہ ربط ہیں ذات و صفات کے درمیان اور رابطہ اتصال و اتحاد  
 الْإِلْتِيَامِ بَيْنَ الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ مَنْ تَمَيَّزَ بِحَقِيقَتِهِ الْعَالِيَةِ  
 ہیں درمیان صفات اور افعال کے وہ ذات اقدس کہ ممتاز و نمایاں ہوئے ان کی حقیقت عالیہ کے طفیل  
 بَطُونِ الْأَحْدِيَّةِ عَنْ ظُهُورِ الْوَاحِدِيَّةِ وَتَفَرَّدَ بِظِلِّهِ الْعَامِرِ  
 احدیت کے بطون و اسرار احدیت کے آشکار اور نمایاں آثار سے اور منفرد ہوا ان کے محیط اور شامل ظل رحمت کے طفیل

وَجُوبُ عَنِ الْإِمْكَانِ كَبَلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَظَهَرَتْ بِهِ  
 وجوب امکان سے۔ انہیں کے ذریعے انسانیت کامل ہوئی اور انہیں کی بدولت رحمانیت باری کا  
 الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نَزْوُلُهُ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَلَوْلَا عُرُوجُهُ لَمَا اتَّخَذَ  
 ظہور ہوا۔ اگر ان کا نزول (عالم عناصر کی طرف) نہ ہوتا تو وحدت کثرت میں تبدیل نہ ہوتی اور اگر ان کا عروج نہ ہوتا تو کثرت میں  
 الْمُتَعَدَّدُ الْوَاحِدُ حَقِيقَتُهُ وَالْمُتَعَدَّدُ صَوْرَتُهُ وَهُوَ الْفَاعِلُ  
 وحدت کی جلوہ گری نہ ہوتی۔ واحد سے حقیقت ان کی اور متعدد ہیں صورتیں اور امثال ان کی وہ فاعل و مؤثر بھی  
 الْمُنْفَعِلُ وَالْمُتَرَقِّي الْمُنَزَّلُ أَدْمُومٌ وَمَنْ بَعْدَهُ نُؤَابَةٌ وَصُورٌ  
 ہیں اور منفعل و متاثر بھی، صاحب ارتقاء و عروج بھی اور صاحب تنزل بھی حضرت آدم اور بعد والے انبیاء و رسل سبھی ان کے نائب ہیں اور  
 ظَلَالِهِ وَجَبْرِيْلُ وَمَنْ تَحْتَهُ أَتْبَاعُهُ وَشُعَاعَاتُ شَمْسِ جَمَالِهِ  
 ان کے نخل و عکس جبرئیل اور ان کے ماتحت ملائکہ سبھی ان کے تابعدار ہیں اور ان کے آفتاب جمال کی شائیں ہیں  
 النُّورِ الْقُدْسِيِّ الْمْتَشَعِّعِ فِي الظَّلَالِ وَالْكَمَالِ الْإِلَهِيِّ وَالظَّاهِرِ فِي  
 وہ نور قدسی ہیں جو ضوؤ نکل ہے ظلال اور کمال الہی میں اور ظہور فرما ہے  
 الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ الَّذِي هُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَسِرُّ الْأَسْرَارِ  
 جلال و جمال میں وہ نور الانوار ہیں اور ستر الاسرار ان  
 سِرِّيَّتِهِ فَوْقَ نُورِيَّتِهِ وَنُورِيَّتِهِ فَوْقَ سِرِّيَّتِهِ نُورٌ بِهَا هُوَ  
 کا سر و باطن ان کی نورانیت سے زائد ہے اور نورانیت سر و باطن سے زائد نور ہیں بح  
 سِرٌّ وَسِرٌّ بِهَا هُوَ نُورٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ فِي أَنْ  
 سر اور مخفی ہونے کے اور سر و باطن ہیں بح نور و ظہور کے۔ اے اللہ میں ان کے ساتھ توسل کرتا ہوں تیری بارگاہ میں  
 تَشْفِيْنِي وَتُصَحِّحِنِي وَتَقْوِيْنِي وَتَجْعَلِنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ وَتُثَبِّتِنِي  
 کہ تو مجھے شفا اور تندرستی عطا کرے اور توانائی دے اور طویل العمر بنا دے اور ثابت قدم رکھے  
 عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَتُوصِلِنِي  
 اہل سنت و الجماعت کے طریقہ پر اور محبت و معرفت کے طریقہ پر اور مجھے واصل فرمائے



إِلَى مَرَاتِبِ الرِّجَالِ الْكَامِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى  
 كَامِلِ مَرَدُونَ كَيْ مَرَاتِبِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا فَرَا وَأُورِ بَرَكَاتِ دَعَا  
 الْمَحْبُوبِ الْمُقَدَّسِ عَنْ أَنْ يُحِبَّ أَحَدًا أَوْ يَعْرِفَهُ أَحَدًا كَمَا  
 اس محبوب پر جو اس سے مقدس و بالاتر ہیں کہ کوئی ان سے (مکافئ) محبت کرے یا ان کی معرفت حاصل کرے  
 يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيزِ الْأَعْلَى إِلَّا أَنْتَ فَهُوَ خَاصُّكَ وَمَخْصُوصُكَ  
 جیسے کہ ان کے شان والے کے لائق ہے سوائے تیرے پس وہ تیرے خاص اور مخصوص ہیں  
 كَمَا أَنْتَ لَا يَعْرِفُكَ أَحَدٌ إِلَّا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَ  
 جیسے کہ تجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم پس تو  
 بِعِنَايَتِكَ الْخَاصَّةِ خَاصَّةً وَمَخْصُوصَةً اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهُوَ  
 اپنی عنایات خاصہ کی وجہ سے ان کا خاص اور مخصوص ہے۔ اے اللہ تو ہے اور وہ ہیں اور  
 لَيْسَ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِكَ  
 نہیں درمیان تیرے اور ان کے کوئی واسطہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے نور مقدس  
 الْمَنْزَرَةِ الْمَشْبَهَةِ وَسِرِّكَ الْمُقَدَّسِ الْمَصَوِّرِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ وَ  
 پر جو (نوع انسانی کے) مشابہ ہیں اور اپنے سر مقدس پر جو منصور و منسکل ہیں (شکل بشری میں) اے اللہ ان کی عزت کا  
 بِحُرْمَةٍ مَنِ اتَّبَعَهُ إِشْفَانِي شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا وَاجْعَلْنِي قَوِيًّا  
 صدقہ اور ان کے متبعین کی حرمت کے طفیل مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور مجھے توانا  
 صَحِيحًا مُعَافَاً فِي الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَالذِّينِ وَالذَّنْبِ وَأَطْوَلَ عُمْرِي  
 تندرست اور صاحب عافیت بنا بدن و قلب اور دین و دنیا کے لحاظ سے اور میری عمر دراز فرما  
 وَثَبَّتْنِي عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ هُمْ  
 اور مجھے ثابت قدم رکھ محققین کاملین صوفیاء کے طریقہ پر جو کہ  
 وَرَثَةُ حَبِيبِكَ الْأَصْفَى الْمُجْتَبَى الْمُرْتَضَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
 وارث ہیں تیرے حبیب اصفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَبِيبِكَ ذَلِكَ النُّورِ الْعَالِيِ وَالسِّرِّ  
 وسلم۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے حبیب کے طفیل جو نور عالی اور سر متعالی  
 الْمَتَعَالَى أَنْ تَشْفِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ وَتُصَحِّحَنِي وَتُقَوِّينِي  
 ہیں کہ شفا عطا کرے مجھے تمام امراض سے اور صحت و تقویت عطا فرمائے  
 وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ  
 اور مجھے طویل العمر بنائے آمین آمین آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ  
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شُعَاعِ الذَّاتِ الْقَدِيمَةِ السَّرْمَدِيَّةِ النُّورِيَّةِ وَنُورِ  
 صلوات نازل فرما محمد پر جو شعاع ہیں ذات قدیمہ سرمدیہ نوریہ کی اور نور ہیں  
 أَفلاكِ الْوُجُودِ الْكَلِيَّةِ الظُّهُورِيَّةِ اللَّهُمَّ حُدُوكَ فَوْقَ طَاقَتِي وَ  
 وجود کے افلاک کلیہ ظاہریہ کا۔ اے اللہ تیری حمد میری طاقت و بساط سے زائد ہے  
 شِئَاءِ حَبِيبِكَ لَيْسَ بِقُدْرَتِي وَفِي طَاعَتِكَ وَفِي اتِّبَاعِ شَرِيعَتِكَ  
 اور تیرے حبیب کی شتا، میری قدرت میں نہیں ہے۔ میں تیری اطاعت اور تیری شریعت کی اتباع میں  
 مُتَوَسِّلٌ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِي بِاسْمِ حَبِيبِكَ الَّذِي اسْمُهُ فَوْقَ  
 وسیلہ بناتا ہوں اپنے تمام سوالات و حاجات میں تیرے حبیب کے نام نامی کو کہ جن کا نام مقدس بلند و بالہے  
 الْمَسْمِيَّاتِ وَأَشْرَفُ مِنَ الْمَعَانِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 تمام مسمیات سے اور اشرف ہے تمام معانی سے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
 وَأَقُولُ إِنِّي مُتَوَسِّلٌ بِحَبِيبِكَ فَإِنَّ التَّوَسُّلَ بِنَفْسِ حَبِيبِكَ يَقْتَضِي  
 اور میں کہتا ہوں کہ میں متوسل ہوں تیرے حبیب کے ساتھ کیونکہ تیرے حبیب کی ذات کے ساتھ توسل چاہتا ہے  
 الْإِتِّصَالَ بِهِ وَهُوَ غَايَةُ الْغَايَاتِ وَلَا غَايَةَ فَوْقَهُ فَإِنْ نَظَرْتُ إِلَى  
 ان کے ساتھ ربط کامل کو اور وہ سب غایات کی غایت ہیں ان سے اوپر کوئی غایت نہیں ہے پس اگر میں ملحوظ رکھوں اس امر کو  
 أَنَّ حَبِيبَكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ  
 کہ تیرے حبیب کی ذات ہی مقصود ہے ان کے اسم سے صلی اللہ علیہ وسلم پس ان کی ذات اور اسم ایک ہوئے



هُوَ كَمَا قَالُوا إِنَّ الْإِسْمَ هُوَ عَيْنُ الْمَسْتَى فَمِنْ أَشْرَفِ عَظِيمٍ وَفَضْلٍ  
 جِسْمٍ مَنْ قَبْلَ جَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ  
 تیرے جیب کی جانب سے رحمت نازل فرمائے ان یرا اللہ تعالیٰ اور سلام ہزار دفعہ۔ اے اللہ  
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَنِيِّ عَنْ تَوْصِيْفِنَا وَالْمُسْتَعْنِي عَنْ  
 صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو بے نیاز ہیں ہماری توصیف سے اور مستغنی ہیں  
 تَكْرِيبِنَا وَهُوَ الْمَكْرَمُ الْمَكْرَمُ وَالْمَعْظَمُ الْمَعْظَمُ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ  
 ہماری تعظیم سے اور وہی صاحب اکرام و تکریم ہیں اور صاحب عظمت و تعظیم ہیں۔ اے اللہ اے لطیف  
 يَا رِزَّاقُ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ لَكَ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَبْسُطُ  
 اے رزاق۔ اے قوی۔ اے عزیز تیرے ہی ملک میں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں وسیع فرماتا ہے  
 الرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَقْدِرُ فَاَبْسُطْ لَنَا مِنَ الرِّزْقِ مَا يُوْصِلُنَا بِهِ  
 رزق جس کے لیے چاہے اور اس کی مقدار معین کرتا ہے پس پھیلا ہمارے لیے رزق اتنا قدر کہ پہنچائے اس کے ساتھ  
 إِلَى رَحْمَتِكَ وَمِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِقْمِكَ وَمِنْ  
 اپنی رحمت تک اور اپنی رحمت سے اتنا قدر کہ حائل ہو جائے اس کے ذریعے ہمارے اور اپنے عذاب کے درمیان  
 حِلْمِكَ مَا يَسَعُنَا بِهِ عَفْوُكَ وَاخْتِمْنَا السَّعَادَةَ الَّتِي خَتَمْتَ بِهَا  
 اور اپنے حلم سے اتنا قدر کہ اس کی بدولت محیط ہو جائے ہمیں تیری عفو اور ہمارا خاتمہ فرما اس سعادت پر جس پر تو نے اپنے اولیاء  
 لِأَوْلِيَاءِكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا وَأَسْعِدْهَا يَوْمَ لِقَائِكَ وَزَحْرِحْنَا  
 کا خاتمہ فرمایا اور بنا ہمارے دنوں سے بہتر اور سعادت مندی والادن اپنی ملاقات کا دن اور دور رکھ ہمیں  
 فِي الدُّنْيَا عَنْ نَارِ الشَّهْوَةِ وَأَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ فِي مِيَادِينِ الرَّحْمَةِ  
 دنیا میں شہوت کی آگ سے اور داخل فرما ہمیں اپنے فضل سے رحمت کے میدانوں میں  
 وَاسْتَأْمِنُ لَدُنْكَ جَلَابِيبَ الْعَصْمَةِ وَاجْعَلْ لَنَا ظَهِيرًا مِّنْ  
 اور پہنا ہمیں اپنے پاس سے عصمت کی وسیع چادریں اور بنا ہمارے امدادی ہمارے

عَقُولِنَا وَمَهِيْبِنَا مِّنْ أَرْوَاجِنَا وَمَسْحَرًا مِّنْ أَنْفُسِنَا كِي نُسَبِّحَكَ  
 عقول سے اور نگہبان ہماری بیویوں سے اور مسخر فرما ہمارے لیے ہمارے نفوس تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کہیں  
 كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا هَبْ لَنَا شَاهِدَةً  
 اور بہت زیادہ ذکر کریں بے شک تو ہمارے متعلق بصیر ہے اور عطا فرما ہمیں مشاہدہ  
 تَصْجِهًا لِكَالِمَةٍ وَافْتَحْ أَسْبَابَنَا وَأَبْصَارَنَا وَادْكُرْنَا إِذَا غَفَلْنَا عَنْكَ  
 کہ جس کے مصاحب ہو ہم کلامی کا شرف اور کھول ہمارے کانوں کو اور آنکھوں کو اور ہمیں یاد فرماتا جب ہم تجھ سے  
 يَا حَسَنُ مَا تَذْكُرُنَا بِهِ إِذَا ذُكِّرْنَا وَإِذَا ذُكِّرْنَا وَإِذَا ذُكِّرْنَا يَا حَسَنُ  
 غافل ہو جائیں ساتھ احسن طریقہ کے اس سے بھی کہ یاد فرماتا ہے جب ہم تجھے یاد کرتے ہیں اور رحم فرما ہم پر  
 بِهِ إِذَا اطَّعْنَاكَ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّرَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَالطُّفْ  
 جب تیری نافرمانی کرے ساتھ کامل ترین صورت رحم کے جو کرتا ہے ہم پر جب تیری اطاعت کریں اور بخش ہمارے گناہ پہلے اور  
 بِنَا لَطْفًا لَا يَجْبِنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَإِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُمَّ  
 پھیلے اور ہم پر لطف فرما اس طرح کہ نہ مجبور کرے ہمیں کوئی شئی تجھ سے پس بیشک تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ  
 أَنْتَ الْمَوْجُودُ وَاجْعَلْنِي مَوْجُودًا ابْنُورًا وَحَدَانِيَّتِكَ لَوْيْدًا ابْنُ شُهُودِ  
 تو ہی موجود حقیقی ہے اور مجھے موجود فرما اپنے نور وحدانیت کے ساتھ۔ تائید کیا ہوا اپنے  
 قُرْبِ أُنْسِكَ الْوُدُودِ بِعَبْدِكَ الْمَعْيُوبِ الْمَحْزُونِ الْهَي  
 قرب و انس کے شہود کے ساتھ جو مودت رکھنے والا ہے تیرے معیوب اور محزون بندے کے ساتھ۔ اے میرے خدا  
 أَنْتَ الْمَوْجُودُ بِذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ بِالْوَهِيَّتِكَ بِعَيْنِ عَيْنِ هَاءِ  
 تو ہی موجود ہے بذات خود جو بلند مرتبت ہے الوہیت کے ساتھ، ساتھ عین ہاء  
 هُوَيْتِكَ اللَّهُمَّ ثَنَانِي وَصَلُّوا إِلَيَّ وَتَسْلِيمَاتِي عَلَى جَبِيكَ مِنْ  
 ہویت و وجود خاص کے۔ اے اللہ میری ثناء اور صلوات و تسلیمات تیرے محبوب پر  
 الْكَمَلِ الْوَسَائِلِ وَأَعِزِّ الدَّرَائِعِ لِي فِي حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا عَاجِزُونَ  
 کامل ترین وسیلہ اور عزیز ترین ذریعہ ہیں میرے لیے تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ بے شک ہم عاجز و



قَاصِرُونَ بُرَاءُ أَعْلَى إِلَيْكَ مِنَ الزَّبِيحِ وَالزَّلِيلِ مُطِيعُونَ لِمَا أَمَرْتَ

قاصر ہیں۔ براءت اختیار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں ٹیڑھ اور لغزش سے۔ اطاعت گزار ہیں تیرے امر کے

بِهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَعَمَلٍ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

قول و فعل اور عمل سے پس بلند شان ہے اللہ شہنشاہ برحق۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

مالک ہے عرش کریم کا۔ ساتھ وسیلہ حرمت سیدنا وحبیبنا ونبیننا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَادْفَعْ عَنِّي وَلَا تَدْفَعْنِي وَ

علیہ وسلم کے مجھے بلند فرما اور پست نہ فرما۔ میرا دفاع فرما اور مجھے نہ دھنکار اور

أَعْطِنِي وَلَا تَحْرِمْنِي وَآكِرْمْنِي وَلَا تُهَيِّئْ وَبِرْدُنِي وَلَا تَنْقُصْنِي

مجھے عطا فرما اور محروم نہ فرما مجھے عزت بخش اور خوار نہ فرما اور مجھے زیادہ بخش اور کمی نہ فرما

وَإِنْرِنِي وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيَّ أَحَدًا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحْفَظْنِي

مجھے ترجیح دے اور مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے نہ دنیوی امر میں اور نہ اخروی میں۔ مجھے محفوظ فرما

وَلَا تُضَيِّعْنِي فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْجَابَةِ جَدِيرٌ

اور ضائع نہ فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور قبول دعا کا حقدار اور لائق

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ وَ

اے صاحب جلال و اکرام۔ اے اللہ جو امر تو نے میرے لیے مقدر فرمایا اور

شَرَعْتَ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَتَيْسِيرِكَ فَتَيِّمَهُ لِي بِأَحْسَنِ الْوَجْهِ

میں اس میں شروع ہوا تیری توفیق اور تیسیر سے پس وہ میرے لیے تمام و مکمل فرما احسن ترین طریقہ پر

كَلِمًا وَأَصْلَحَهَا وَأَصْوِبَهَا فَإِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالْجَابَةِ

اور انتہائی درست صورت مطابق اور اصولوں کے مطابق کیونکہ تو قدیر ہے ہر اس امر پر جو چاہے اور دعائیں قبول فرمانے

جَدِيرٌ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ يَا مَنْ يُمَسِّكُ

کے لائق ہے۔ اے کہ قائم ہیں تمام آسمان اور زمینیں اس کے امر سے۔ اے کہ روکے ہوئے ہے

السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر ساتھ اپنے اذن کے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ رؤف

رَحِيمٌ رَبِّ أَعْنِي وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ

درحیم ہے۔ اے اللہ میری امداد فرما اور میرے خلاف امداد نہ فرما۔ میری مدد فرما اور میرے مخالفت کی مدد نہ فرما

أَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي الْهُدَى وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى وَأَنْصُرْنِي

میرے لیے خفیہ تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما۔ مجھے ہدایت خاص تک واصل فرما اور میرے فرما اور میری مدد فرما

عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ

مجھ پر ظلم و تعدی کرنے والوں کے خلاف۔ اے میرے پروردگار میری امداد فرما اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کرنے میں

اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى وَأَحْفَظْنِي فِيهَا

اے اللہ میری امداد فرما دنیا کے ذریعے دین پر اور تقویٰ کے ذریعے آخرت پر۔ اور میری حفاظت فرما ان امور میں جن سے

غَبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكُنْ لِي إِلَى نَفْسِي فِيهَا حَاضِرَةٌ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ

میں غائب ہوں اور مجھے نہ سونپنا میرے نفس کی طرف ان امور میں جن میں حاضر ہوں۔ اے کہ جسے بندوں کے گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتے

وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَأَغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ إِنَّكَ

اور مغفرت و بخشش اس کی شان میں کمی نہیں کرتی۔ مجھے عطا کر جو تیرے لیے موجب نقصان نہیں اور مجھے بخش جو تیرے لیے ضرر نہیں

أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْرَثَ اللَّهُ أُمَّتَهُ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا

کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ہے ان کی اُمت کو فردوسِ اعلیٰ کا اور وہ اس میں

خَالِدُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مصداق ہیں

مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ه مَا

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا قسم ہے قلم کی اور قلم کی اور اس کی جو ملائکہ کہتے ہیں۔ ہیں ہو آپ



أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
 اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طفیل مجنون - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّ  
 اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " اور بے شک  
 لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 تمہارے لیے عظیم اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ عَلَى أُمَّتِهِ  
 اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی امت پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں  
 اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا بَرًّا رَحِيمًا وَجَوَادًا كَرِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 اے اللہ ہو تو ہمارے لیے محسن مہربان اور جو د فرما و کرم گستر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بَصَائِرَ أُمَّتِهِ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کی قلبی نگاہوں کو  
 لِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ اللَّهُمَّ حَبِّبِ الْإِيمَانَ وَالْبِرَّ وَالْإِحْسَانَ  
 اس محبوب کی معرفت اور محبت کے لیے - اے اللہ محبوب بنا ہمارے لیے ایمان نیکی اور احسان  
 وَزَيِّنْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِنَا وَكِرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  
 اور مزین کر اسے ہمارے دلوں میں - اور نا پسندیدہ بنا ہمارے لیے کفر و فسوق اور عصیان کو  
 وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَائِعِنَا وَإِلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا  
 اور بخش - اے اللہ ہمیں ہمارے والدین مشائخ اور بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لے گئے  
 بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ  
 ایمان کے ساتھ اور ہمارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ پیدا نہ فرما نا ایمان والوں کے حق میں - اے ہمارے رب بیشک  
 رَحِيمٌ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ وَأَدِّمْ  
 نواز و رحیم ہے - اے اللہ کھول دے ہمارے لیے رحمت کے دروازے اور پھیلا دے ہم پر اپنی رحمت اور دائم رکھ

عَلَيْنَا سِوَا بَعْغِ نِعْمِكَ وَأَدْفَعْ عَنَّا شَرَّ نِقْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَنْ سَخَطِكَ  
 ہم پر اپنی کامل نعمتیں اور دور فرما ہم سے اپنے برے انتقام کو اور بچا ہمیں اپنی ناراضگی سے  
 وَوَفَّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 اور توفیق دے ہمیں اپنے پسندیدہ امور کی اے جلال و اکرام کے مالک - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَبَّهُ اللَّهُ بِعُلُودَاتِهِ وَصِفَاتِهِ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات و صفات کی بندی و برتری میں  
 وَيُسَارِعُ فِي مَرْضَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
 اور جلدی سے کام لیتا ہے ان کی مرضی پوری کرنے میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّتِي تَجَلَّى بِتَجَلِّيَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ يَا نُورُ نُورِي  
 آل پر جو محبوب کہ مزین ہیں دو تجلیوں کے ساتھ - انہیں فرمایا واحد واحد نے اے میرے نور کے نور  
 وَيَا سِرِّي سِرِّي وَيَا خَزَائِنَ مَعْرِفَتِي أَفْدَيْتُ مُلْكِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ  
 اور میرے سر الاسرار - اے میری معرفت کے خزانے میں نے اپنا ملک تجھ پر شمار کر دیا ہے اے محمد  
 مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ يُطَلِبُونَ رِضَائِي وَأَنَا  
 عرش اعلیٰ سے تخت الشریٰ تک سبھی مخلوق میری رضا کی طالب ہے اور میں  
 أَطْلُبُ رِضَائَكَ يَا مُحَمَّدُ فَتَأْتِ فَاتِحَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 تمہاری رضا چاہتا ہوں اے محمد، کشادگی کرنے والے - اللہ تعالیٰ کی طرف کشادگی کی توفیق دے ہوئے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَرِيفِ عَوَامِنَا رَسُولِ صَاحِبِ  
 بیچ سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہم تمام کے شہید اور گواہ ہیں - تاج شفاعت والے رسول ہیں  
 التَّاجِ مُحَلِّلِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
 اللہ تعالیٰ کے اذن سے (طبیبات کو) حلال بٹھرانے والے ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَرَقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 آل پر جو محبوب صاحب براق ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی







أَنْتَ الْعَالِي الْمَطْلَقُ اجْعَلْنِي شَبِيهَا بِالْعُلُوبِيَّاتِ حَتَّى الْعَقْلِ الْأَوَّلِ  
 تو ہی تو مطلق بلندی اور رفعت والا ہے بنا دے مجھے مشابہ علویات کے حتی کہ عقل اول کے  
 مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ فِي السَّلْسَلَةِ مَعَ بَقَاءِ الْقُوَّةِ فِي الْإِعَادَةِ وَالتَّكْرُرِ فِي  
 بغیر قصور و کوتاہی کے سلسلہ میں مع باقی رہنے اعادہ اور رجوع کی قوت کے  
 طَرِيقِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَاهْتِئَالٍ بِطَيِّ زَمَانِي أَوْ مَكَانِي فِي الصُّعُودِ  
 اس طریق اور راہ میں بغیر کسی توقف اور نظر اندازگی کے بسبب طے زمانی یا مکانی کے صعود  
 وَالصُّبُوطِ بِخَيَالٍ صَحِيحٍ بَلْ يَفْعَلُ لِمَا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى تَصْعِيدِ الْكَثِيفِ  
 اور ہبوط میں ساتھ خیال صحیح کے بلکہ بالفعل اور عملی طور پر کیونکہ تو قادر ہے کثیف و مادی کو  
 وَتَهْيِيطِ اللَّطِيفِ بِعَظَمَتِكَ الشَّرِيفِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِتَفَرُّغِ نَسِيمِ  
 بلندی کی طرف لے جانے پر اور لطیف و مجرب و کوشی کی طرف لانے پر بسبب اپنی عظمت شریف کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تخلص  
 نَسِيمَاتِ نَفَحَاتِ أَسْرَارِكَ وَكَشْفِ اسْمِكَ الَّذِي أَلْقَيْتَهُ لِتَلْقَى  
 فرمانے کا اپنے اسرار کی ملک والی نسیموں میں سے ایک نسیم اور اپنے اس اسم کے کشف کا جس کا انشاء کیا تو نے واسطے زائل کرنے  
 عَطَشِ الْبَادِ وَارْدِي حَوْضَ بَرِّكَ وَقَاصِدِي سُبُوحِ بَرِّكَ يَا مَنْ لَا لَهُ  
 پیاس اپنے احسان کے حوض پر وارد ہونے والوں کے جگروں کی اور اپنے مقدس راز کے قصد کرنے والوں کی اے کس جس کی کوئی  
 حَدَّ يَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 حد معلوم نہیں کی جاسکتی اور وہی بہت جانتے والا ہے اپنے ذاتی علم کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ  
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ نَسِيسٍ وَتَعْسِيسٍ وَتَفْسِيسٍ وَتَرْشِيسٍ وَتَعْيِيسٍ  
 کی آل پر مطابق تعداد تمام اصول رویہ اور ہلاکتوں اور رقیق بادلوں اور بد خلقی اور اچھی گزران کے  
 وَتَبْشِيسٍ وَتَقْتِيسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
 اور ہر بلاشت اور تفتیش کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ ثَبِّ وَثَعْبٍ وَثَغْبٍ وَثَقْبٍ وَثَبِّجٍ وَثَعْبِجٍ  
 آل پر مطابق تعداد ہر مضبوط نشست اور لوٹ۔ ذبح و قتل اور سوراخ۔ پاؤں کی انگلیوں پر اور سفری جماعت کے

وَثَبِّجٍ وَثَلْبِجٍ وَثَبِجٍ وَثَعْبِجٍ وَثَقْبِجٍ وَثَبِّجٍ وَثَعْبِجٍ وَثَقْبِجٍ وَثَبِّجٍ وَثَعْبِجٍ وَثَقْبِجٍ  
 بلند آواز اور برت اور ملاوٹ و اختلاط اور جماعت والے اور ثقیل اور تازہ کھجور اور مقام تہمد بارش کے پانی کے تالاب اور سرحد اور بھیل  
 وَثَوْرٍ وَتَبَاشِشٍ وَثَبِطٍ وَثَطْعٍ وَثَغْشَعٍ وَثَوْعٍ وَثَغْغَعٍ وَثَبِغٍ وَثَغِينَةٍ وَ  
 اور بیل قبریں کھودنے والے اور کمزور اور زکام اور صدق اور احمق مرد اور غلط ملط کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے اور خاک آلود اعضاء اور  
 ثَقْفٍ وَحَسْفٍ وَحَشْفٍ وَحَصْفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 سیدھا کرنے اور پھینکانے۔ ہر وہی کھجور اور ہر مضبوط شئی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ جَوْهَرٍ وَجَابٍ وَجَبَابٍ وَحَجْبٍ وَ  
 اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر جوہر کے۔ گیسو مٹی اور ٹھٹھ اور ہلاکت آفرینی کے اور  
 جَنْدِبٍ وَجَذِبٍ وَجَرِبٍ وَجَرَابٍ وَجَرْدِبٍ وَجَرُشِبٍ وَجَيْدٍ وَجِنِ  
 ظلم و غدر اور کشتش اور کھلی اور زنبیل اور طعام پر قبضہ جمانے والے اور نقاہت والے اور عمدہ اور ہرجن  
 وَجَمِعٍ وَجَامِدٍ وَجَبِيلٍ وَجَدِيدٍ وَجَرَعِبٍ وَجَرْبٍ وَجَسْرِبٍ وَجَشِبٍ  
 اور ہر جمعیت اور ٹھوس شئی اور خوب صورت اور نئی شئی اور جفا کار اور مالدار اور طویل القامت اور ہر بد ذائقہ کھانے  
 وَجَعِبٍ وَجَعْتَبَةٌ وَجَعُشِبٍ وَجَعُنِبٍ وَجَلِبٍ وَجَلْبِتٍ وَجَلْجَابٍ  
 اور ترکتش اور حرص و ہوا اور بخل اور حرص مالی اور باہر سے لائے ہوئے مال اور مضبوط و بہادر اور شیخ کبیر  
 وَجَلْخَبٍ وَجَلْدِبٍ وَجَلْعِبٍ وَجُوبٍ وَالجَوَابِ وَجُودَابِ  
 اور پٹائی کرنے اور مضبوط قوی اور کثیر الشرا اور بڑے ڈول اور ہر پہلو اور جواب اور جو ذاب کے مطابق  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ  
 اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد  
 كُلِّ حَيٍّ وَحَلِوٍ وَحَاضِرٍ وَحَصَاٍ وَحَرْبِصٍ وَحَقِّ وَحَقِيرٍ وَحَرٍّ وَحَوَابِ  
 ہر زندہ اور شیریں کے اور ہر حاضر اور کنکری کے اور حرص اور پا بیدار اور حقیر اور گرم اور  
 وَحِبِّ وَحَبَابٍ وَحَثْرِبٍ وَحَثْرِبٍ وَحَجِبٍ وَحَجَابٍ وَحَدِبٍ وَ  
 محبت اور ہر غایت اور کوٹناہ قامت اور گدے پانی اور ہر مانع اور حجاب اور ہر ڈھلوان کے اور



حَرْبٍ وَحَرْبٍ وَجُنْبٍ وَحُوبٍ وَحَتٍّ وَحَرْتٍ وَحَلِيَّتٍ وَحَشْوَتٍ  
 اور جنگ اور جماعت اور خشک شیئی اور گناہ اور ہر گراوٹ اور چہانے کی آواز اور قوی و توانا اور ضعیف و ناتوان  
 وَحَدِيثٍ وَحَرِيثٍ وَحَنْتٍ وَحَوْجٍ وَحَسْبٍ وَحَصْرِيَّةٍ وَحَصْلَبٍ وَ  
 اور ہر جوان اور کھیتی اور بلوغت اور سلامتی اور خاندانی شرف اور بخل و تنجوسی اور طینت اور  
 حَطَبٍ وَخَطْلَبَةٍ وَسَيْعٍ وَسَمَاءٍ وَسَلِّعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 ایندھن اور کثرت کلام اور ہر خوبصورت اور سہنے والے اور ہر سبزی کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ خَفِيْفٍ وَخَيْرٍ وَخَطَاةٍ وَ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر خفیف اور خیر اور خطا کار اور  
 خَفِيٍّ وَخَبٍّ وَخَطْءٍ وَخَبٍّ وَخَرَابٍ وَخَصْبٍ وَخَصْبِيَّةٍ وَ  
 پوشیدہ کے اور ہر چھپی شئی اور خطا کے اور فریبی اور بخر و ویران اور ہر بزدل و نادب اور نرستہ سر سبزی اور پانی کی  
 خَضَعِيَّةٍ وَخَبٍّ وَخَطْءٍ وَخَلْبٍ وَخَيْبَةٍ وَخَتَّتٍ وَخَرْتٍ وَخَفَّتٍ  
 جنبش اور ضعف و ناتوانی اور ہر عظیم اور کثرت کلام اور دھوکہ بازی اور سوانی اور بدنی کسالت اور سوئی کے سوراخ اور آواز کی لپٹی  
 وَخَافِتٍ وَخَبْتٍ وَخَيْبٍ وَخَرْتِيٍّ وَخَنَابِيٍّ وَخَبْرِيٍّ وَخَبْرٍ وَ  
 اور پانی سے خالی بادل اور ہر فرتنی اور منہ سے نکلی ہر آواز اور غیبیت اور ہر روی شئی اور مذموم اور ملامت شئی کے اور احمق اور  
 حَجْوَجٍ وَخَدَّاجٍ وَبَهَجٍ وَتَصْرِيحٍ وَتَشْرِيحٍ وَتَسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 سخت آندھی اور ہر ناقص اور نحوش و خرم اور تصریح اور تشریح اور تسبیح کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ دَائِيٍّ وَدَثَائِيٍّ وَدَرِيٍّ وَدَفِيٍّ وَ  
 سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ہر حرکت کے اور گرمی کی بارش اور گرانے اور سخت گرمی اور  
 دَكَاةٍ وَدَائِبٍ وَدَجْوَبٍ وَدِجَابٍ وَدَرِبٍ وَدَرِيَّةٍ وَدَرْحَابِيَّةٍ وَدَاعِبٍ  
 مدافعت والی شئی کے اور طور طریقہ اور برتن یا بوسے اور بلند سخت زمین اور کشادہ راستہ اور طائی اور مختصر مقدار والے اور کھینے والے اور  
 وَدَهَبٍ وَدَهْلَبٍ وَدَشْتٍ وَدَائِبَةٍ وَدَايِتٍ وَدَعِيَّتٍ وَدَحِيَّتٍ وَ  
 پسائی اختیار کرنے والا لشکر مختصر میدان اور صحرا اور ہر جاندار اور سخت کمینہ اور ہلکی بارش اور آغاز مرض اور عمدۃ البیان محدث

ذَلَايِتٍ وَدَمِيَّتٍ وَدَهْلَبٍ وَدَهْلَبِيَّةٍ وَدَهْمُوْتٍ وَدَبِيٍّ وَدَرِيٍّ وَخَرَجٍ وَوَبِيٍّ وَوَبَكِيٍّ  
 اور تیز رو کے اور ریتی جگہ اور کوتاہ و مختصر اور نرم و ملائم اور نقش و نگار اور کھائی کے کاغذ اور جنونی ہوا اور زخم اور چھین اور  
 وَبُلُوْجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 شادگی اور سپیدہ صبح۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر  
 بَعْدَ دِكْلِ ذَائِعٍ وَذَرَعٍ وَذَمَاءٍ وَذَيْبٍ وَذَنْبٍ وَذَابٍ وَذَهْوَبٍ وَذَيْبٍ  
 مطابق تعداد ہر اضطراب اور ٹھنڈی شئی اور امتی حیات اور متحرک زین جنگلی بیل اور گناہ اور عیب اور جانے والے اور دافری پانی  
 وَذَمِيَّتٍ وَذَائِعٍ وَذَلِيٍّ وَذُوْبٍ وَذَرِيٍّ وَذَلَالٍ وَذَوْجٍ وَذَلِيْلٍ وَذِيٍّ  
 اور وہیلے پن اور پانی پینے اور گھونٹ بھرنے اور جلدی کرنے اور تھپڑ مارنے اور کھانا کھانے اور تندی سے چلنے اور ہر ذلیل اور  
 رُوْحٍ وَغَيْرِ ذِي رُوْحٍ وَذُوْذٍ وَذَبْرٍ وَذَبْرِيٍّ وَذَعْرٍ وَذَكْرٍ وَذَمْرٍ وَ  
 ہر جاندار اور بے جان شئی اور ہر شئی کا وسط اور ہر کتاب اور بھوری چھوٹی اور گجرا ہٹ و خوت اور ذکر اور بہادر اور  
 ذُوْرٍ وَذَفْطِيْسٍ وَذَيْتٍ وَحَفِيْشٍ وَحَصَايِصٍ وَحَصِّ اللَّهُمَّ  
 اگلا حصہ معدہ کا اور مال برباد کرنے والا اور تیز رفتار اور ٹوکری اور تیز دوڑ اور زعفران کے۔ لے اللہ  
 يَا قَاهِرَ الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ اَنْتِقَامُهُ اَنْتَ  
 لے سخت گرفت پر قادر تو ہی ہے جس کے انتقام کی تاب نہیں لائی جا سکتی۔ تو ہی غالب ہے  
 الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى الْجِبَالِ  
 اپنے بندوں پر اور تمام آسمان و زمین والے حتی کہ مستحکم بنیاد والے بندوں بالا  
 الرَّاسِيَّاتِ الشَّامِخَاتِ وَجَلُّ مَنْ قَهْرِكَ وَهَيْبَتِكَ مِنْ حَيْنِ  
 پہاڑ خوف زدہ ہیں تیرے قہر اور ہیبت سے جب سے تو نے  
 نَزَعْتَ اللَّبَاسَ الْمَلَكُوْتِيَّ مِمَّنْ يَدْعِي الْعِلْمَ وَالرِّيَاسَةَ بِالْقَهْرِ  
 اتار دیا ہے ملکوتی لباس علم و ریاست کا دعویٰ رکھنے والے سے قہر اور جبر کے ساتھ  
 وَالْجَبْر اَنْتَ الْفَرَّاقُ بَيْنَ السَّمَانِثَلَاتِ وَالرَّكَابِ بَيْنَ الْمَتَفَرِّقَاتِ  
 تو جدائی پیدا کرنے والا ہے باہم متماثل اشیاء میں اور ترکیب دینے والا ہے متفرقات میں





هَذَا أَهْوَنُ عَلَيْكَ فِي عَالَمِ الْمَثَالَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ مِنْ عَالَمِ  
 یہ کچھ پر زیادہ آسان ہے عالم مثال اور عالم محسوسات میں بے نسبت عالم  
 الْمَجْرَدَاتِ وَالْمَعْقُولَاتِ فَبَطْشِكَ شَدِيدًا قَاهِرًا إِنْ أَخَذْتَهُ  
 مجردات اور عالم معقولات کے پس تیری گرفت بہت سخت اور غالب ہے اگر تو اس گرفت پر آئے  
 فَاحْفَظْنِي عَنْ قَهْرِكَ بَلْطِفِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَيْسَ قَهْرُكَ وَغَلْبَتُكَ  
 تو مجھے محفوظ رکھنا اس قدر سے اپنے لطف اور رحمت کے ساتھ اور نہیں تیرا قہر اور غلبہ  
 مَحْصُورَةٌ فِي قُوَّةِ دُونَ قُوَّةٍ بَلْ كُلُّ جُنْدٍ مِنْ جُنُودِ قَهْرِكَ وَ  
 منحصر ایک قوت میں بغیر دوسری کے بلکہ ہر لشکر تیرے قہر و غلبہ کے لشکروں میں  
 غَلْبَتِكَ إِنْ أَرَدْتَ التَّسْلِيْطَ عَلَى أَصْحَابِ الظُّلْمِ وَالْعُدُوِّ إِنْ  
 سے اگر ارادہ کرے تو اسے مسلط کرنے کا اہل ظلم و تعدی پر  
 فَالذُّوْدَةُ الصَّغِيْرَةُ الْمَسْمُومَةُ بِالْبَعُوْضَةِ تُعْجِزُ حَيَوَانًا كَثِيْرًا  
 تو ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو مچھر کہا جاتا ہے عاجز کر دے بہتیرے حیوانات کو  
 مَدُهْشَانُ إِنْ أَرَدْتَ تَسْلِيْطَهَا عَلَيْهِ فَتَدْخُلُ فِي مَدَاخِلِهِ مِنْ  
 دہشت زدہ کرتے ہوئے اگر تو ارادہ کرے اس کے مسلط کرنے کا ان حیوانوں پر پس وہ داخل ہو جائیگا مناسب مقامات  
 الْبَحْرِ وَتَصِيْرُهَا كُلُّهَا دَرَكَاتٍ جَهَنَّمَ حَارَّةً تَفْرِقُهَا جُزْءٌ جُزْءً  
 دخول میں سمندروں سے اور کر دیگا ان تمام کو جہنم کے طبقات سخت گرم اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا در آنجا لیکہ  
 طَبَاخَةٌ مُّغْلِيَةٌ أَجْسَادُ مَنْ أَرَدْتَهُ بِهَا فِي مَرَاتِبِ النَّسَبِ وَ  
 پکانے اور گلانے والا ہوگا ان کے اجسام جن کا تو نے اس کے ذریعہ تباہی کا ارادہ کیا یہ معاملہ تو ہے انسی اور  
 الْإِضَافَاتِ فَمَا بَالُ الْقَهْرِ الْأَحَدِيِّ الْحَقِيْقِيِّ وَإِنَّمَا الْقَهْرُ الْمَفْنِي  
 اضافی مراتب خلق میں پس کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کے قہر حقیقی کا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قہر جو فنا کر نوالا ہے  
 لِشَيْءٍ صُلْبٍ كَالْجِبَالِ الشَّدِيْدَةِ الْأَحْكَمِ الْقَاعِدَةِ أَصُولُهَا إِلَى  
 کسی بھی سخت ترین شئی کو مثلاً سخت پہاڑوں کو جو بہت مستحکم ہوں ان کے اصول اور بنیادیں



مُنْتَهَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ لَطِيْفٍ غَيْرِ مَحْسُوسٍ يَجْعَلُ الْقَهْرَ الْقَلَاءَ  
 منتہائے زمین تک پہنچی ہوئی ہوں تو وہ تباہ کن قہر جو کہ اکھیڑ پھینکنے والا ہے بنائے گا ایک لطیف غیر محسوس شئی کو  
 لَهُ الْآلَةُ التَّحْلِيْلُ وَالتَّجْزِيْ يَجْعَلُ أَجْزَاءَهَا مَسْلُوبَةً الْقُوَّةِ  
 آلہ تحلیل و تقسیم کا جو کر دے گا اس کے اجزاء کو عاری قوت  
 وَالثَّقَلِ حَتَّى يَصِيْرَ الْمَقْهُورَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ بِقَهْرِ ذِي  
 اور ثقل سے حتیٰ کہ وہ مقہور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں بسبب اس قہر کے  
 نَسْبَةٍ وَإِضَافَةٍ وَلَوْ تَعَلَّقَ أَصْلُهُ بِشَيْءٍ مَّا بَقِيَ شَيْءٌ لَّا فِي  
 جو نسبت و اضافت رکھتا ہے اور اگر حقیقی قہر کا تعلق کسی شئی سے ہو تو کوئی شئی بھی باقی نہ رہے نہ  
 الْحِسِّ وَلَا فِي الْمَعْنَى بِتَغْيِيْبِهِ فِي جَنْبِهِ حَتَّى يَصِيْرَ الْمَقْهُورَ  
 حواس میں اور نہ حقیقت میں بسبب غائب ہونے قہر کے مقہور کی جس میں حتیٰ کہ ہو جائے گا مقہور  
 عَيْنَ الْقَهْرِ الْمُهْلِكِ فَلْقَهْرُكَ مَرَاتِبٌ لَا يُحْصَى عَدْدُهَا اللَّهُمَّ  
 عین تباہ کن قہر کا پس تیرے قہر کے لیے اتنے مراتب ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اے اللہ  
 اجْعَلْ قَهْرَكَ نَاصِرِيْ حَيْثُ دَعَوْتَهُ بِالْهَامِكِ الصَّحِيْحِ حَتَّى يَقْلَعَهُ  
 بنا دے اپنے قہر کو میرا امدادی جہاں بھی اس کو پکاروں تیرے صحیح الہام سے حتیٰ کہ اکھیڑ دے اس کو  
 مِنَ الْأَصْلِ كَالْجِبَلِ الْمَقْلُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ يَصْرِفَهُ  
 بنیاد سے مانند ان پہاڑوں کے جو اکھیڑے ہوئے ہوں گے بنیادوں سے قیامت کے دن یا پھیر دے اسے اس کے اصل سے  
 مِنْ قُوَّةٍ مُّؤْذِيَةٍ بَغِيْرِ حَقٍّ فَيُؤْذِيَهُ بِأَيْلَامٍ وَشِدَّةٍ حَتَّى يَكْفَى  
 کو اس کی ناحق ایذا رسانی کی قوت سے پس اس کو ایذا دے الم و شدت کے ساتھ حتیٰ کہ اسے باز رکھے اس  
 مِنْ فِعْلِهِ يَا إِلَهَ الْقَهَّارِ أَنْتَ تَعْظُمُ وَتُكْرَمُ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ  
 فعل سے۔ اے اللہ غالب تو ہی عظمت و اکرام عطا کرتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے  
 وَإِنْ كَانَ حَقِيْرًا ذَلِيْلًا عِنْدَ عِبَادِكَ الْاَغْنِيَاءَ وَالْمَغْرُورِيْنَ  
 اگرچہ حقیر اور ذلیل ہو تیرے اغنیاء اور مغرور بندوں کے نزدیک





فَهَذَا عَبْدُكَ الدَّاعِي مِنْ أَرْدَلِ عِبَادِكَ وَفَقْرَائِكَ وَكَأَنَّكَ لَيْسَ لَكَ  
تو یہ تیرا دعا طلب بندہ تیرے رزق اور فقیر بندوں میں سے ہے۔ نہیں اس کا کوئی

جَاهٌ وَلَا صَدَارَةٌ فِي الْأَغْنِيَاءِ غَيْرَ أَنََّّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْكَ طَالِبٌ  
مرتبہ اور مقام عزت اغنیاء کے نزدیک مگر وہ متوجہ ہے تیری طرف طلب گار ہے

لِلْجَاهِ وَالْعِظْمَةِ عِنْدَكَ بَانَ تَجْعَلَنِي وَلِيًّا مُتَصَرِّفًا فِي أَرْضِكَ  
جاہ و عظمت کا تیرے ہاں بایں طور کہ کرے تیرے لیے ایسا ولی جو تصرف رکھتا ہو تیری زمین میں

مُسْتَقِلًّا فِي دَعْوَةٍ كُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِكَ غَيْرِ مُتَخَلِّفٍ وَتَتَوَقَّفُ  
مستقل ہو تیرے اسماء میں سے ہر اسم کی دعوت میں نہ ناکام اور نہ متوقف ہو ان

فِي ظُهُورِ الْأَشْيَاءِ وَالْأَفَاعِيلِ وَإِنْ كَانَتْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مُتَكَرِّرَةً  
کے آثار اور افعال کے ظاہر ہونے میں۔ اگرچہ ہوں ہر گھڑی میں ہزار دفعہ تکرار

أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ إِذَا قَارَبْتُ إِلَى الْفِعْلِ وَارْدَتِ الصَّرْفَ فَأَصْرِفْهَا  
کئے جانے والے پھر جب قریب ہوں فعل و تاثیر کے اور ارادہ فرمائے تو انہیں پھیرنے کا تو پھیرنے نہیں

اللَّهُمَّ أَقْطَابُ الْمَلَكُوتِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالنَّاسُوتِ  
اے اللہ ملکوت۔ سموات اور ارض اور عالم اجہام کے

نَوَائِبِكَ وَخَلْفَائِكَ فَاجْعَلْ قَهْرَهُمْ قَهْرِي مُتَصَرِّفًا بِهِ فِي  
اقطاب تیرے نائب اور خلیفے ہیں پس بنا دے ان کے قہر و غلبہ کو میرا قہر و غلبہ تصرف کروں ساتھ

مَلَكُوتِ الْأَرْضِ بِالتَّوَهُّمِ وَالتَّخْيِيلِ ثُمَّ بِالْفِعْلِ فِي الْخَارِجِ  
اس کے ملکوت ارض میں ساتھ توہم و تخیل کے پھر عملی طور پر خارج و واقع میں

مَعَ حَسَنِ الرِّضَا فِي الْعَاقِبَةِ أَمِينٌ مَعَ كُلِّ مَلِكٍ وَرُوحِ نَبِيٍّ  
مع حسن رضا کے عاقبت میں مع ہر فرشتہ اور نبی مرسل کی روح کے امین

مُرْسِلِ اللَّهُمَّ إِنِّي مُذْنِبٌ وَمُقَصِّرٌ فَاسْتُرْنِي وَلَا تَفْضَحْنِي  
اے اللہ میں گناہگار ہوں اور کوتاہیوں کا مرتکب پس مجھ پر پردہ ڈال اور مجھے رسوا نہ فرما

أَنْتَ سِتَارُ الْعِيُوبِ وَعَفَّارُ الذُّنُوبِ وَقَرِيبِي يَوْمَ الْجَزَاءِ وَ  
تو عیوب کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور قریب کر مجھے حساب اور

الْحَشْرِ إِلَى نَبِيِّ وَرَسُولِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْفِقًا رَحِيمًا  
حشر کے دن طرف میرے نبی و رسول محمد علیہ السلام کے جبکہ وہ مجھ پر مشفق و رحیم ہوں

عَبُوسًا وَلَا كَارِهًا مَنِّي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَنِي  
نہ ناراض اور متنفر مجھ سے۔ اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ مجھے بالمشافہہ ان سے کلام کرنے

مُشَافِهًا مَعَهُ بِأَحْسَنِ كَلَامٍ حَتَّى يُجِيبَنِي وَيُحِبَّ أَصْحَابَهُ مِنْ  
والا بنائے حسین کلام کے ساتھ حتی کہ وہ مجھ سے محبت فرمائیں اور محبت فرمائیں ان کے

الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَيُّمَةَ الْمَهْدِيِّينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي إِلَى صِرَاطِ  
اصحاب۔ خلفاء راشدین اور آئمہ مہدیین۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے راہ راست

مُسْتَقِيمٍ وَأَمُرْنِي عَلَيْهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِفَضْلِكَ وَهُوَ قُوَّةٌ هَدَايَتِكَ  
کی اور مجھے مامور فرما اس پر مع متقین کے ساتھ اپنے فضل کے اور یہی تیری قوی ہدایت ہے

أَمِينٌ مَعَ كُلِّ أَمِينٍ فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  
امین ساتھ ہر امین کے امور دین میں۔ اے اللہ ہدایت عطا کر ہمیں صراط مستقیم کی

صِرَاطَ مَحَبَّتِكَ وَمَحَبَّةِ جَبِيَّتِكَ وَمَحَبُّوبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
جو راہ ہے تیری محبت کا اور تیرے حبیب و محبوب کی محبت کا صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ يَا سُبُّوحٌ يَا قُدُّوسُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ  
وسلم۔ پاک ہے بادشاہ قدوس۔ اے سبح۔ اے قدوس۔ رب ملائکہ

وَالرُّوحِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ  
اور روح کے۔ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اور ساتھ ہی حمد و ثناء اس کیلئے اس کی مخلوق کی تعداد اور ذات کی رضا

عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار سبحان اللہ۔ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ





وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ

واللہ اکبر - سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ - اللہ

أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سُبْحَانَ

بہت بڑا ہے - اللہ کے لیے بہت حمد ہے - تسبیح ہے اللہ کے لیے صبح اور شام - پاک ہے

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَا

اللہ مالک تمام جہانوں کا - نہیں بازگشت (گناہوں) سے اور نہ طاقت نیکی کی مگر ساتھ اللہ غالب حکمت والے کے نہ

مَنْحًا وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي

جائے نجات ہے اور نہ جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے مگر طرف اسی کے - اے اللہ مجھے بخش - مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے

وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَمَنْ يَعْتَصِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى

اور رزق عطا فرما میری شستگی خاطر دور فرما - مجھے عافیت دے اور جو اللہ تعالیٰ سے عصمت حاصل کرے تو یقیناً اس کو ہدایت

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي فِي الْحَيَاةِ رَبُّطَ مُحَمَّدٍ فِي الْمَمَاتِ

دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف - اے اللہ مجھے عطا فرما زندگی میں ربط محمد کریم کے ساتھ - اور حالت موت میں

شَطْرَ مُحَمَّدٍ وَفِي الْقَبْرِ رِفَاقَةَ مُحَمَّدٍ وَفِي الْعَرَصَاتِ رِاقَةَ مُحَمَّدٍ

انصال محمد کریم سے اور قبر میں رفاقت محمد کریم کی اور میدان قیامت میں مسربانی محمد کریم کی

وَبِأَنْقِسَامِ الْكُوثَرِ رُكُوتَ مُحَمَّدٍ وَبِالْحِسَابِ رَحْمَةَ مُحَمَّدٍ وَبِجَمِيعِ

اور تقسیم کوثر کے وقت جام محمد کریم کا اور مقام حساب میں رحمت محمد کریم کی اور تمام

الْأُمُورِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَشْمِيتَ مُحَمَّدٍ وَبِغُفْرَةِ الذُّنُوبِ

دنوی اور اخروی امور میں دعائے رحمت محمد کریم کی اور صفائے کبائر گناہوں کی

الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مغفرت کے وقت شفاعت محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَحْبُوبِكَ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّيْتَ وَتَعَيَّنْتَ أَوْلًا بِصُورَةٍ

و سلام نازل فرما اپنے محبوب محمد پر کہ تو تجلی فرما اور تعین و تشخیص اختیار کیا پہلے پہل ان کی

حَقِيقَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْمَطْلُوقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ

حقیقت علیہ عالی مرتبت اور بلند شان مطلقہ کی صورت کے ساتھ نسبت دوسرے

الْحَقَائِقِ الْمَقْيَدَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْبِ غُيُوبِكَ الَّذِي لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ

حقائق کے جو مقید ہیں ساتھ نسبت کے طرف غیب کے تیرے غیوب میں سے کہ نہیں لوٹتا طرف اس

تَعَيَّنَ وَلَا يَهِيلُ إِلَيْهِ وَصَفٌ وَكَيْسَتْ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ إِلَّا صُورَةٌ

کے کوئی تعین اور نہیں میلان کرتا طرف اس کے کوئی وصف اور نہیں ہے وہ حقیقت مگر تیرے علم

عَلِمَكَ بِذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْجَمَالِيِّ الْإِنْدِرَاجِيِّ الْمَشْتَمِلِ عَلَى

ذات و صفات کی صورت اور اوپر طریقہ اجمال و اندراج کے جو مشتمل ہے ان

جَمِيعِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ صُورُكَ الْعِلْمِيَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ لِلشَّيْءِ وَالصِّفَاتِ

تمام حقائق پر جو تیری علمی تفصیل صورتیں ہیں واسطے تمام شیوں کے - اور تمام صفات

الْوُجُودِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ مُتَمَيِّزَةٌ لِكُلِّ صُورَةٍ عِلْمِيَّةٍ مِّنْ غَيْرِهَا

وجودیہ الہیہ اور کونیہ باہم ممتاز ہیں ہر ایک کے لیے دوسری سے مختلف صورت ہے

وَالصُّورَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ هِيَ جَانِبُ ظُهُورِ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ الْعَالِيَةِ كَمَا أَنَّ

تو تمام صور تفصیلیہ اس حقیقت عالیہ کی جانب ظہور ہیں جیسے کہ تیری احدیت اس کی جانب

أَحْدِيَّتِكَ جَانِبُ بَطُونِهِ وَتِلْكَ الْحَقِيقَةُ بَرَزَخَةٌ بَيْنَ الْبَطُونِ وَالظُّهُورِ

بطون و خفاء ہے اور وہ حقیقت برزخ و واسطہ ہے احدیت کے بطون اور واحدیت کے ظہور کے

الْأَحْدِيَّةِ وَالْوَأْحِدِيَّةِ ثُمَّ تَجَلَّيْتَ بِصُورَةٍ ظُهُورِ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ وَظِلِّهَا

درمیان پھر تو تجلی فرما ہوا اس حقیقت کے ظہور والی صورت کے ساتھ اور اس کے ظل و پرتو کے ساتھ

الَّذِي يُسَمَّى بِالْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْوُجُودِ الْعَامِّ وَهَذَا الظِّلُّ بَرَزَخٌ بَيْنَ

جس کو حقیقت انسانیہ اور وجود عام کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ظل و عکس و برزخ ہے

الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ وَالْأُلُوهِيَّةِ وَالْعِبُودِيَّةِ فَيَشْتَمِلُ سَائِرُ الْحَقَائِقِ

وجوب و امکان اور الوہیت و عبودیت کے درمیان پس شامل و محیط ہے تمام حقائق کو



الهیة كانت أو خلقانية وفي هذا البرزخ تحققت الحقائق كلها و  
 الہیہ ہوں یا مخلوق والے۔ اور اسی برزخ میں۔ مستحق ہیں تمام حقائق اور  
 تميزت به الوجوبية عن الامكانية سبحانك اللهم صل وسلم على  
 اسی سے ممتاز ہوئی وجوبیت امکانیت سے۔ پاک ہے تو اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخابر يقول من ايداه الله بروح  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مخاطب ہیں اس قول کے جو قول ہے ان کا جنہیں اللہ تعالیٰ  
 القدس من عبده انا وحينما اليك كما اوحيانا الى نوح والبيبين من  
 نے تائید بخشی روح القدس کے ساتھ اپنے پاس سے "بیشک ہم نے وحی نازل کی طرف تمہارے جیسے وحی نازل کی طرف نوح کے اور ان کے بعد  
 بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل  
 والے انبیاء کے" صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 سيدنا محمد النبي الاسنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى  
 آل پر جو محبوب کہ بلند مرتبت نبی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 آل سيدنا محمد سيرا الاسماء الحسنى اللهم باسمك الاعظم وباسمائك  
 آل پر جو محبوب کہ راز مخفی ہیں اسماء حسنی کا۔ اے اللہ بظیفیل تیرے اسم اعظم۔ اور اسماء  
 الحسنى وصفاتك الكبرى وكتبك العظمى وصحفك العلياء و  
 حسنی اور بلند شان صفات اور عظیم کتب اور عالی شان صحف کے اور  
 نعوت نبيك المصطفى وشبائيل رسولك المجتبي اجعل هذه  
 بظیفیل اپنے نبی مصطفیٰ کی صفات عالیہ کے اور رسول مجتبیٰ کے خصائل کے بنا دے ہماری ان  
 الصلوات مفرحات لقلوبنا ما نعات لمهلكا تبا باعنا لمنجياتنا  
 صلوات کو موجب فرحت ہمارے قلوب کے لیے اور مانع ہماری ہلاکتوں سے اور باعث ہماری کامیابیوں کا  
 ما حیات لذنوبنا مكفرات لسيئاتنا ساترات لعيوبنا مضاعفات لحسانتنا  
 مٹانے والی ہمارے گناہوں کی۔ دور کرنے والی ہمارے سینات کی۔ پردہ پوشی کرنیوالی ہمارے عیوب کی۔ بڑھانے والی ہماری نیکیوں کی

ناصرات على اعدائنا و فاتحات ليهما تنافي الدارين ومبرعات لقبورنا  
 مددگار ہمارے لیے اعداء کے خلاف اور کھولنے والی ہمارے لیے مہمات کے دروازے دونوں جہانوں میں۔ بھلائی کی موجب ہوں ہماری  
 وقائدات الى الله للصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و  
 قبول میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں صالحین کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور  
 على آل سيدنا محمد الذي اثنى الله عليه بقوله عند اختصامه  
 آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی ستارہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کے ساتھ وقت محقق فرمائے ان کے ساتھ  
 بقربه امن الرسول بما انزل اليه من ربه اللهم صل وسلم  
 اپنے قرب کے ایمان لائے رسول ساتھ تمام ان امور کے جو نازل کئے گئے ان پر رب کی طرف سے "اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بادرت الملائكة بقوله  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے جلدی کی ملائکہ نے اس قول و اقرار میں  
 لما علموا انه حبيب وخليفة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك  
 جب جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب و خلیفہ ہیں "میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ  
 له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على  
 اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ناداه مولاه تكدذا  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پکار کر کہا ان کے مولیٰ نے لطف اندوز ہونے کے لیے  
 بالوصال الغالي وجزم مقام الشرف العالی اللهم صل وسلم  
 ساتھ قیمتی وصل کے "اور گذر جائیے شرف عالی کے مقام سے بھی" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما  
 على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي انبأه الله بما كان و  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی گذرے ہوئے امور کی  
 بما يكون واطلعه على سائر الغيب المكنون اللهم صل وسلم على  
 در آتے والوں کی اور مطلع فرمایا ان کو مخفی غیب کے اسرار پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما





سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَصَفَّحَ صَفَحَاتِ السِّرِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے ملاحظہ کیا ایک ایک کر کے سر مخفی کے صفحات کا

الْمُسْتَوْرٍ وَتَلَدَّ ذِي بَطْنِهِ عَلَى الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور لطف اندوز ہوئے کتاب مسطور پر اطلاع کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اتَّحَفَهُ اللَّهُ بِأَنْوَاعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو بطور تحفہ دیں اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی

الْكَرَامَاتِ وَخَصَّهُ بِفَرَضِ خَمْسِ صَلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کرامات اور بزرگیاں اور مخصوص ٹھہرایا انہیں پانچ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُفَّتْ عَلَيْهِ عَرَائِسُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی طرف بھیجا گیا صلوات خمسہ والی

خَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَى مَنْصَبَاتِ الْخَلَوَاتِ وَالْجَلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دو لمبوں کو خلوتوں اور جلو توں کی جلوہ گاہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوَّلَ عُرُوسٍ جَلِيَّتٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہلی دلہن جس کو آشکارا کیا گیا

عَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِ الْمَعْدُودَةِ صَلَاةُ الْفَجْرِ الْمَشْهُودَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان پر ان پانچ شمار کردہ دلہنوں سے تو وہ صلوٰۃ فجر تھی جس میں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ دن اور رات والے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس پر آشکارا کی گئی

الظُّهْرُ وَهِيَ ثَانِيَةُ الْأُولَىٰ قَدْ كَسَتْ صَاحِبَهَا رِضًا وَسُؤْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ ظہر جبکہ وہ دوسرے درجہ میں تھی جس نے پہنائی اپنے ادا کرنے والے کو خلعتِ رضا اور حصولِ مقصود کے لیے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور

كَانَتْ لِأُمَّتِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا

یہ نماز ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلوات کی موجب تھی۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اپنی رحمت و سلام

ثَالِثَةُ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْعَصْرُ الْوُسْطَىٰ مِنْ تَرْكِهَا آثَمٌ وَأَخْطَأُ اللَّهُمَّ

تیسرے مرحلہ میں نماز عصر کا کہ جس نے اسے ترک کیا گناہگار اور خطا کار ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ظاہر کی گئی ان پر

الْمَغْرِبُ رَابِعَةٌ مَّا مَضَىٰ مُبَشِّرَةٌ بِالْفَوْزِ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نماز مغرب چوتھے درجہ میں پہلی تین سے درآغا لیکہ وہ بشارت دینے والی ہے کامیابی اور حصولِ رضا کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ خَامِسَةٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر آشکارا کیا گیا قیمتی موتیوں سے پانچواں

الدَّرَجَاتِ الْفَاخِرَةِ وَهِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

موتی اور وہ صلوٰۃ عشاء ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتُ عَلَيْهِ تِلْكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر ظاہر کئے گئے یہ نفیس جواہر

النَّفَائِسُ وَتَلَدَّ ذِي مَقَامِ الْوَحْدَةِ بِمَحَاسِنِ تِلْكَ الْعَرَائِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور لطف اندوز ہوئے مقامِ تفرّد و اختصاص میں ان عرائس کے محاسن کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَقَّى مَا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے قبول کیا اپنے رب کے

رَبِّهِ بِالْقَبُولِ وَنَالَ مِنْهُ بِذَلِكَ السُّؤْلِ وَالْبَأْمُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرائض کو اور پایا اس وجہ سے اس کی بارگاہ سے مطلوب و مأمول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّ عَيْنِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور

كَانَتْ لِأُمَّتِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا

یہ نماز ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلوات کی موجب تھی۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اپنی رحمت و سلام

كَانَتْ لِأُمَّتِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا

یہ نماز ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلوات کی موجب تھی۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اپنی رحمت و سلام

یہ نماز ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلوات کی موجب تھی۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اپنی رحمت و سلام



بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ بِمَغْفِرَتِكَ الْكَامِلَةِ إِلَهِي لَكَ الْحَمْدُ تَقَحَّمتُ  
 کے ساتھ اور مغفرت فرما اپنی مغفرت کاملہ کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے میں تکلف و اہل  
 أَوْ دِيَةِ الْهَلَاكِ وَحَلَلْتُ شَعَابَ تَلْفٍ تَرْضَيْتُ فِيهَا لِسَطْوَاتِكَ  
 ہو گیا ہوں ہلاکت کی وادیوں میں اور اتر گیا بربادی کی گھاٹیوں میں راضی ہو چکا میں ان میں تیری سطوتوں پر  
 وَلِحُلُولِ عُقُوبَاتِكَ وَوَسِيلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ وَذَرِيعَتِي أَنِّي لَمْ  
 اور تیری عقوبتوں کے نزول پر اور میرا وسیلہ تیری بارگاہ میں صرف عقیدہ توحید ہے اور میرا ذریعہ صرف یہ  
 أَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا وَلَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ الْهَاتِ وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي وَإِلَيْكَ  
 ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا اور الہ اختیار نہیں کیا اور میں نے دوڑا یا سے طرف تیرے اپنے نفس  
 مَفْرَأُ الْمَسِيءِ وَمَفْرَعُ الْمَضِيِّ لِحِظِّ نَفْسِهِ الْمَلْتَجِي فَاكُم مِّنْ عَدُوِّ  
 کو اور تیری طرف ہی جانے فرار ہے ہر خطا کار کی اور جہلے پناہ ہے اپنے نصیبوں کو برباد کرنے والے طالب پناہ کی۔ کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے  
 أَنْتَضَى عَلَى سَيْفِ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لِي طَبَّةَ مَدِينَتِهِ وَأَرْهَفَ لِي شَبَابًا  
 سونت رکھی ہے مجھ پر عداوت کی تلوار اور تیز کر رکھی ہے اپنی چھریوں کی دھار اور تیز کر رکھی ہے  
 حَذَاهُ وَدَافَ إِلَى قَوَاتِلِ سَمُومِهِ وَسَدَّ دَنُحُومِي صَوَائِبَ سَهَامِهِ وَلَمْ  
 ان کی دھار اور پہنچائی ہیں مجھ تک قتل کرنے والی زہریں اور مضبوطی سے نصب کئے ہیں میری جانب اپنے نشانہ پر لگنے والے  
 تَنَمُّ مَنِي عَيْنٍ حَرَّاسَتِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ وَيَجْرِعَنِي زُعَاقَ  
 تیرا اور نہیں سوئی مجھ سے اس کی تاک والی آنکھ اور دل میں پوشیدہ کر رکھا ہے مجھے شہانہ سے دوچار کرنے کا عزم اور گھونٹ گھونٹ کر کے پلانے  
 مَرَارَتِهِ فَظَنَرْتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 اپنے غم و غصہ کا گڑوا پانی جس کو تو نے دیکھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرْبَتِهِ فِي الْقِرَابِ وَقَدْ جَهَّ فِي الْأَقْدَامِ وَكُونِي فِي  
 آل پر اور آپ کی مشک پر مشکیزوں میں اور پیالے پر پیالوں میں اور جام پر  
 الْكِيْزَانِ وَكُونِي فِي الْأَكْوَابِ وَمَشْرَبَتِهِ فِي الْمَشَارِبِ وَصِرَاحِيَّتِهِ  
 جاموں میں۔ اور کلاس پر کلاسوں۔ اور ان کے پینے کے برتن پر برتنوں میں اور ان کی صراحی پر

فِي الصَّرَاحِيَّاتِ وَكَاسِهِ فِي الْكُؤُسِ وَصَحْنِهِ فِي الصُّحُونِ وَصَحْفَتِهِ  
 صراحیوں میں اور ان کے پیالہ پر پیالوں میں اور ان کے چھوٹے پیالہ پر ایسے پیالوں میں۔ اور بڑے پیالے  
 فِي الصَّحَافِ وَأَمِّهِ فِي الْأَقْهَاتِ وَسَلْفِهِ فِي الْأَسْلَافِ وَخَلْفِهِ فِي  
 پر ایسے پیالوں میں ان کی والدہ پر جملہ امہات میں۔ اور ان کے پیش رو پر جملہ اسلاف میں اور جانشین پر  
 الْأَخْلَافِ وَسَوْمَلَتِهِ فِي السُّومَلَاتِ وَقَصْعَتِهِ فِي الْقَصَاعِ وَقَارُورَتِهِ  
 جملہ اخلاف میں اور آپ کے بوسیدہ کپڑے پر بوسیدہ کپڑوں میں اور پیالے پر پیالوں میں اور بوتل پر  
 فِي الْقَوَارِيرِ وَأَوْقِيَّتِهِ فِي الْأَوَاقِي وَكَيْلِهِ فِي الْأَكْيَالِ وَصَاعِهِ  
 بوتلوں میں اور آپ کے اوقیہ (چالیس ذم کا سکہ) ہر اوقیوں میں اور آپ کے ناپ پر  
 فِي الْأَصْوَعِ وَمُدَّهِ فِي الْأَمْدَادِ وَرَطْلِهِ فِي الْأَرَطَالِ وَمَعِيشَتِهِ فِي  
 ناپوں میں اور صاع (چار سیر کا پیمانہ) پر صاعوں میں اور مد (سیر کا پیمانہ) پر مدوں میں اور رطل (آدھ سیر کا پیمانہ) پر رطلوں میں اور آپ کی  
 الْمَعَايِشِ وَجُوعِهِ فِي الْجُوعَانِ وَحَبْرِبُطْنِهِ فِي الْأَحْجَارِ وَعُطْشِهِ  
 معیشت پر معیشتوں میں اور بھوک پر بھوکوں میں اور آپ کے پیٹ پر بندھے پھچھر پر پھچھروں میں اور آپ کی پیاس پر  
 فِي الْعَطَاشِ وَزَادِهِ فِي الْأَزْوَادِ وَشَرَابِهِ فِي الْأَشْرِبَةِ وَمَشْرُوبِهِ فِي  
 پیاسوں میں اور آپ کے زادراہ پر زادوں میں اور آپ کے پینے پر پینے کے طریقوں میں۔ اور آپ کے مشروب پر  
 الْمَشْرُوبَاتِ وَشَرْبِهِ فِي الشَّارِبِينَ وَغَدَائِهِ فِي الْأَغْذِيَةِ وَطَعَامِهِ  
 مشروبات میں اور آپ کے پینے پر پینے والوں میں اور غذا پر غذاؤں میں اور طعام پر  
 فِي الْأَطْعِمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 طعاموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا كَوْلِهِ وَأَكْلِهِ وَوَلِيْمَتِهِ وَنَارِهِ وَمَائِهِ وَحَطْبِهِ وَضَيْفِهِ  
 پر اور آپ کے ماکول پر اور کھانے پر اور ولیمہ پر اور آگ۔ پانی۔ ایندھن پر۔ ممانوں پر  
 وَضِيَا فِتِّهِ وَرَحِيَّتِهِ وَصَلَاتِيَّتِهِ وَتَوَابِلِهِ وَمَلْجِئِهِ وَبَصِلِهِ وَإِدَامِهِ فِي  
 اور ضیافت پر چکی پر اور آپ کی سل پر اور مصلحے پر اور نمک پر اور پیاز پر اور سالن پر



الْأُدْمِ وَخَلِّهِ وَقَلْقَاسِهِ وَقَرْعِهِ وَسَلِقِهِ وَخَضْرَانِهِ فِي الْخَضْرَاتِ

سالموں میں اور سرکہ پر۔ بہاری سبزیوں پر اور کدو پر اور چندر پر اور ترکاری پر ترکاریوں میں

وَشَعِيرِهِ فِي الشَّعِيرَاتِ وَرَعِيفِهِ فِي الْأَرْغَفَةِ وَخُبْزِ شَعِيرِهِ فِي الْأَخْبَازِ

اور جو پر جووں میں اور ان کی گندم کی روٹی پر روٹیوں میں اور ان کی جو کی روٹی پر جووں کی روٹیوں میں

وَمَرَاقِهِ فِي الْأَمْرَاقِ وَخَمِيطِهِ فِي الْخُمُطِ وَنُونِهِ فِي النَّيْنَانِ وَسُفْرَتِهِ فِي

اور ان کے شوربے پر شوربوں میں اور ان کے بھنے ہوئے گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور چھلی پر چھلیوں میں دسترخوان

السُّفْرَاءِ وَبَسَلَتِهِ فِي الْمَبْسَلَاتِ وَاللُّقْمَاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

پر دسترخوانوں میں اور بسلم اللہ پڑھنے پر بسلم اللہ پڑھنے والوں میں اور ان کے ہر لقمہ پر لقموں میں تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں

أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوْسَأَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور کفایت فرمائی اور پناہ دی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَحْنِهِ فِي الْأَطْحَانِ وَسَوْبِقِهِ فِي السَّوَابِقِ

اور آپ کی آل پر اور ان کے پیسے ہوئے آٹے پر ایسے آٹوں میں اور ستو پر ستوؤں میں

وَقَدِيدِهِ فِي الْأَقْدَادِ وَلَحْمِهِ فِي اللَّحُومِ وَحَلْوَايِهِ فِي الْحَلَاوِيِّ وَ

اور خشک گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور نازہ گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور شیرینی پر شیرینیوں میں اور

عَسَلِهِ وَشَحْمِهِ فِي الشُّحُومِ وَزَبْدِهِ وَجَيْدِهِ وَشَبْعِهِ فِي الشَّبْعَانِ

شہد پر اور چربی پر چربیوں میں اور مکھن اور پنیر اور سیری پر سیر لوگوں میں

وَلِحُسِّ أَصَابِعِهِ فِي الْأَحْسِينِ وَحَمْدَلَتِهِ فِي الْحَامِدِينَ وَخَلَالِهِ

اور انگلیاں چاٹنے پر انگلیوں کو چاٹنے والوں میں۔ اور ان کے الحمد کہنے پر الحمد کہنے والوں میں اور خلال کرنے

فِي الْمَتَخَلِّلِينَ وَسُورِهِ فِي الْأَسَارِ وَفَاكِهِتِهِ فِي الْفَوَاكِهِ وَتَمْرَتِهِ

پر خلال کرنے والوں میں اور ان کے بچے ہوئے کھانے پر بچے ہوئے کھانوں میں اور ان کے پھل پر پھلوں میں اور خشک کھجور

فِي التَّمْرَاتِ وَرُطْبِهِ فِي الْأَرطَابِ وَسَفْرَجَلِهِ فِي السَّفَارِجِ وَعَنْبِهِ فِي

پر کھجوروں میں اور نازہ کھجور پر ایسی کھجوروں میں اور ان کی ناشپاتی پر ناشپاتیوں میں اور انجور پر

الْأَعْنَابِ وَخَوْخِهِ وَرُمَّانِهِ وَنَرَبِيْبِهِ وَلَوْنِيْهِ وَقِثَّارِهِ وَ

انجوروں میں۔ اور آرزو پر۔ اور انار پر اور سوگی پر۔ اور بادام پر۔ انجیر پر۔ اور کلٹی پر اور

تَوْتِهِ وَحَبْحَبِهِ فِي الْحَبَابِ وَبَطِيْخِهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمْرِنَا

آپ کے توت پر۔ اور قلیل پانی پر ایسے پانیوں میں اور ان کے تربوز پر۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے پھلوں میں

وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَةِ اللَّهِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ

اور برکت عطا فرما ہمارے مدینہ میں اور برکت عطا فرما ہمارے پیمانے پر اسیروں میں۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے

أَطْعَمَنَا خَيْرًا مِنْهُ وَزَدْنَا مِنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَوْسَأَنَا وَ

اس میں (جو کھلایا ہے) اور کھلایا ہے اس سے بہتر اور اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کفایت

أَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ

فرمائی اور ہمیں پناہ دی اور سیراب فرمایا اور آغاکندہ اس سے بے نیازی ہے اور نہ اس کی ناشکرگزی۔ اے اللہ تیری مغفرت بہت وسیع ہے میرے

وَرَحْمَتِكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا

گناہوں سے اور تیری رحمت زیادہ اُمید کے لائق ہے میرے نزدیک میرے عمل سے۔ اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں گناہوں سے

لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

میں ان کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرَابَتِهِ فِي الْأَقْرَبَاءِ وَعَشِيرَتِهِ فِي الْعَشَائِرِ وَ

اور آپ کے اہل قرابت پر اقرباء میں اور خاندان پر خاندانوں میں اور

قَبِيْلَتِهِ فِي الْقَبَائِلِ وَنَسَبِهِ فِي الْأَنْسَابِ وَأَهْلِهِ فِي الْأَهْلِيْنَ وَأَصْلِهِ

قبیلہ پر قبائل میں اور نسب پر انساب میں اور اہل پر اہلی میں اور اصل پر

فِي الْأَصُولِ وَفُرْعِهِ فِي الْفُرُوعِ وَكَبْنِهِ وَمَحِيْضِهِ وَسَمْنِهِ فِي الْأَسْمَانِ

اصول میں اور ان کی فرع پر فروع میں اور دودھ پر اور خالص دودھ پر اور گھی پر گھی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ فَخْمًا مَّفْخَمًا وَسَيِّمًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ عظیم و معظم تھے۔ خوبصورت، حسن سے عظیم حقیر



قَسِيمًا رُبَعًا مِّنَ الْقَوْمِ لَا بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمَتَرِدِّ اَطْوَلَ

وصول کرنے والے۔ درمیان قدر بہت دراز قامت اور نہ کوتاہ قامت۔ درمیانے قد والوں سے خورا دراز

مِنَ الْمَرْبُوعِ وَاَقْصَرَ مِنَ الْمَشْدَبِ مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ حَسِينُ الْجِسْمِ

اور طویل قامت لوگوں سے قدرے کم درازی والے۔ معتدل خلقت والے۔ حسین جسم والے

كَانَتْ غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ لَمْ تَعْبَهُ تَجَلَّةٌ وَلَمْ تَذَرْ بِهِ صُعَلَةٌ

گویا کہ وہ شاخ ہیں درمیان دو شاخوں کے۔ نہ ان کو عیب ناک کیا پیٹ کی بڑائی نے اور نہ نقص پیدا کیا سر کی چھوٹائی نے

بَادِنٌ مُّتَبَاسِكٌ وَكَانَ اسْمُ اللَّوْنِ وَاَبْيَضُ وَجْهُهُ يَتَلَاكَ الْقَمَرُ

درمیانے فربہ بدن والے ہڈیوں سے چپکے مضبوط گوشت والے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا اور چہرہ انور سفید جو چمکتا تھا مانند

فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ مَعَ التَّنْوِيرِ لَا بِالْمَطْهَمِ

چودھویں کے چاند کے۔ اور آپ کے چہرہ انور میں مناسب گولائی تھی مع نورانیت کے نہ بہت بھاری پر گوشت

وَلَا بِالْمَكْتَمِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي خَلْفَةً خَلَّةً فِي الدَّارَيْنِ وَخَلْعَةً فِي

اور نہ بالکل پچکا ہوا۔ اے اللہ عطا فرما مجھے باقی رہنے والی دوستی دارین میں اور باقی رہنے والی خلعت

الْكُونَيْنِ بِحُلِيَّةِ سَيِّدِ الْكُونَيْنِ وَحَلْوَةِ مَعَ اللَّهِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ

دونوں جہانوں میں بطفیل سید کونین کے جلیہ مبارک کے اور بطفیل ان کی خلوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جہانوں کے

وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ اللَّهُمَّ تَفَضَّلْ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ إِلَيَّ وَكُنْ لِي وَلَا

دونوں جانب مشرق و مغرب کا۔ اے اللہ مجھ پر فضل فرما اور میری طرف احسان فرما اور میرا ہو جا میرے

تَكُنْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَبِّي وَاكْشِفْ غَمِّي وَأَهْلِكْ عَدُوِّي يَا

خلوت نہ ہونا۔ اے اللہ دور فرما میرے تفکر کو اور دور فرما میرے غم کو اور ہلاک فرما میرے دشمن کو اے

وَدُودُ اللَّهِ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ

ودود۔ اے اللہ اور قبول فرما میری نیکیاں۔ اے اللہ بنا اپنے رزق کو وسیع تر

عَلَيَّ عِنْدَ الشَّبَابِ وَكَبَرِ سِنِّيْ وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

مجھ پر میرے شباب کے وقت اور بڑھاپے اور عمر کے اختتام کے قریب۔ اے اللہ بنا مجھے

صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ

بہت صبر کرنے والا اور بنا مجھے بہت شکر گزار اور بنا مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی

النَّاسِ كَبِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْتَهِدُكَ لِمَرَأَتِي

نظروں میں بڑا۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کیلئے اور تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں اپنے

أَمْرِي وَأَسْتَجِيرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ

امور میں درستگیوں کی اور پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے اپنے شر نفس سے اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں پس مجھ پر نظر رحمت فرما بیشک

أَنْتَ رَبِّي اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خَلْقِي رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

تو میرا رب ہے۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے پس میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ اے میرے رب مغفرت فرما

وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ اللَّهُمَّ رَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

راہ کو اور مجھے راست ترین راہ پر گامزن فرما۔ اے اللہ اے پروردگار نبی محمد کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهَبْ عَنِّي غَيْظَ قَلْبِي وَأَجْرِنِي مِنْ

و سلم میرے گناہ بخش اور مجھ سے دور فرما میرے دل کا غضب اور مجھے بچائے رکھ گمراہ

مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ

کن فتنوں سے جب تک کہ مجھے زندہ رکھے۔ اے اللہ تو سلام سلامتی ہے اور تجھ سے سلامتی کی ابتداء و ایجاد

وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ حِينَئِذِينَ بِنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا فِي دَارِ السَّلَامِ

اور تیری طرف ہی اس کی بازگشت ہے۔ زندہ رکھ ہمیں ساتھ سلامتی کے اور داخل فرما ہمیں دار السلام (جنت) میں

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ

بارکت ہے تو اے رب ہمارے اور بلند شان اے مالک جلال و اکرام کے۔ اے اللہ مجھے بخش۔

ارْحَمْنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

مجھ پر رحم فرما۔ اور داخل کر مجھے جنت میں ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْبَتَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سدا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی خدمت کے لیے قائم فرمایا



بِخِدْمَتِهِ مُقَرَّبَ الْأَمْلاكِ وَجَعَلْتَهُ قُطْبًا تَدُورُ عَلَيْهِ الْأَفلاكُ

مقرب فرشتوں کو اور انہیں ایسا قطب بنایا کہ جس پر تمام افلاک گردش کرتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَجْلَسْتَهُ عَلَى كُرْسِيِّ الْمَكَانَةِ وَسِرِّ التَّمَكِينِ وَخَاطَبْتَهُ

جس محبوب کو تو نے بٹھایا عزت کی کرسی پر مطلع کیا راز تمکین پر اور خطاب فرمایا انہیں

لِلرُّشَادِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّبْيِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رہبری، تعلیم اور اعلان حق کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُلْتَ لَهُ بِطَرِيقِ التَّبَجِيلِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے فرمایا تکریم و تعظیم کے

وَالتَّعْظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

طور پر اور اللہ نے تجھے سب سے بڑے دی ہیں آپ کو سات آیات جو تکرار کی جاتی ہیں (نمازوں میں) اور قرآن عظیم یعنی سورۃ فاتحہ

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنبَاءُ اللَّهِ وَوَاحِدٌ

فرمادیجئے حقیقت امر من یہ ہے کہ میری طرف توئی کی جاتی ہے کہ جزا میں نیست کہ معبود و متار ایک ہی ہے

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ هُوَ

تو کیا تم تابعداری کرنے والے ہو۔ فرمادیجئے وہ

اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ

اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے

يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

کسی کو جنم نہیں دیا۔ وہ نہیں جنا گیا۔ اور نہیں اس کا

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

کوئی ہم پلہ

